

الموسوعة العربية لأمراض النبات والفطريات

Arabic Encyclopedia of Plant Pathology & Fungi

إعداد الدكتور محمد عبد الخالق الحمداني

Mohammed AL- Hamdany

Eucalyptus Leaf Spot P V

تبعع أوراق أشجار اليوكلاليبتوس (الجزء الخامس)

Names of Subjects	Codes	Page No.
Table of Contents	FS81-LS93	1
Sonderhenia leaf spot	Eucalyptus -FS81	2
Sphaerulina leaf spot	Eucalyptus -FS82	7
Stigmina (Pseudocercospora Leaf Spot)	Eucalyptus -FS83	11
Suberoterosphaeria leaf spot	Eucalyptus -FS84	51
Teratosphaeria leaf spot	Eucalyptus -FS85	54
Teratosphaericola leaf spot	Eucalyptus -FS86	63
Thyrinula leaf spot	Eucalyptus -FS87	65
Tracylla leaf spot	Eucalyptus -FS88	70
Uwebraunia leaf spot	Eucalyptus -FS89	72
Virosphaerella leaf spot	Eucalyptus -FS90	75
Walkaminomyces leaf spot	Eucalyptus -FS91	78
Xenomycosphaerella leaf spot	Eucalyptus -FS92	79
Xenosonderhenia leaf spot	Eucalyptus -FS93	82
Xenosonderheniodes leaf spot	Eucalyptus -FS94	85
Zasmidium leaf spot	Eucalyptus -FS95	86
References		93

Sonderhenia Leaf Spot . تقع سوندريهينيا على Eucalyptus-LS81



اعراض مرضية على اوراق اليوكاليبتوس وتركيب انواع الجنس الكيسي *Sonderhenia* وكما يلي :
 اعراض تقع الوراق ، E-H: تركيب الفطر *Sonderhenia eucalypticola* ، E: مقطع عمودي خلل الكونيديومات ، F,G : الخلايا المولدة للأبواخ الكونيدية مع الأبواخ الكونيدية ، H: أبواخ كونيدية ، I-K: تركيب الفطر *Sonderhenia eucalyptorum* ، I: مقطع عمودي خلل الكونيديومات ، J-K: الخلايا المولدة للأبواخ الكونيدية والأبواخ الكونيدية ، L-O: تركيب الفطر *Sonderhenia radiata* تتضمن الخلايا المولدة للأبواخ الكونيدية وأبواخ كونيدية . مقياس الرسم 10 ميكرومتر.

تسبب الانواع الثلاثة التالية من الجنس الكيسي *Sonderhenia* اعراض تقع الوراق في اشجار اليوكاليبتوس وهي:

- Sonderhenia eucalypticola* (A.R. Davis) H.J. Swart & J. Walker, 1988 .1
Sonderhenia eucalyptorum (Hansf.) H.J. Swart & J. Walker, 1988 .2
Sonderhenia radiata Crous, .3

توصف البقع المتسبيبة عن الفطر *Sonderhenia eucalypticola* (A.R. Davis) H.J. Swart & J. Walker, 1988

بأنها بقع مدوره وقد تكون غير منتضم، تتراوح أقطارها مابين نصف و2 مليمتر ، رمادية اللون، وحافات إرجوانية عندما تكون حديثة، حيث تصبح بلون أحمر داكن أوبني مع الزمن ، عادة ما ترتفع أنسجتها عن السطح بمرور الوقت. يكون الفطر أبواغه الكيسية داخل أكياس في تجاويف أو غرف ضمن الحشو الكيسية أسكوماتا ، ويطلق على الأجسام الثمرية Pseudothecia توجد داخل تلك الفجوات أكياس بوغية ذات جدارين (Bitunicate) (Asci) . ينتج الفطر أبواغه الكيسية ذات الشكل المغزلي والشفاف ، بها حاجز واحد مع تخصير قليل عند الحاجز، وتتراوح أبعاد الأبواغ الكيسية 27-19 X 6-4 ميكروميتير. يكون الفطر أبواغه اللاجنسيّة داخل تراكيب الكونيديومات وهي من نوع البكينيديا . توصف الأبواغ الكونيدية بأنها بنية اللون، لها 3 حاجز عرضية، وليس هناك تخصير عند الحاجز، بأبعد 19-12 X 31-12 ميكروميتير. عرف الفطر المذكور بالإسم المرادف *Hendersonia eucalypticola* عزل الفطر من شجرة يوكاليبتوس تابعة لنوع *Eucalyptus globulus* في أحد مناطق فيكتوريا الأسترالية وكذلك من أوراق نفس النوع في الولاية الأمريكية كاليفورنيا.

2. بقع الفطر *Sonderhenia eucalyptorum* (Hansf.) H.J. Swart & J. Walker, 1988

عزل الفطر من اوراق شجرة يوكاليبتوس تابعة لنوع *Eucalyptus leucoxylon* في منطقتي Mt.Gambier و الجنوب في أستراليا .

3. بقع الفطر *Sonderhenia radiata* Crous: أطلق إسم النوع على نوع اليووكاليبتوس حيث عزل من شجرة يوكاليبتوس تابعة لنوع *Eucalyptus radiata* نامية في أحد منطقة فيكتوريا الأسترالية. تتراوح أقطار بقع الفطر المذكور من 1 إلى 5 مليمتر ، شبه دائريّة الشكل ، بنية اللون، ولها حافات حمراء. يكون الفطر أجسام بكنيدية تمثل الكونيديومات بأقطار مابين 180-250 ميكروميتير لها فتحة مركبة وجدارها مكون من 6-8 طبقات . تختزل الحوامل الكونيدية إلى خلايا مولدة للأبواغ الكونيدية متواجدة داخل الأجسام البكنيدية، شفافة إلىبني شاحب، ناعمة الجدران، بأبعد 5-10 X 12-7 ميكروميتير ، بلونبني متوسط مستقيمة أو منحنية قليلاً، لكل بوج 3 حاجز . تصل أقطار المستعمرات الفطرية 20 مليمتر بعد إسبوعين من تحضين الوسط Malt Extract Agar (MEA) على درجة حرارة 24 ° م.

ومن الجدير بالذكر بان الجنس الكيسي *Sonderhenia* H.J. Swart & J. Walker, 1988 ضم الأنواع الثلاثة التي تسبب أعراض تقع أوراق أشجار اليووكاليبتوس فقط وفق المصنف : Mycobank



Sonderhenia eucalypticola

صنفت الفطريات المسئية لأحد أعراض تقع أوراق أشجار اليوكلاليتوس ضمن المراتب التصنيفية التالية في
القبيلة الكيسية ومملكة الفطريات وفق المصنف Mycobank وكما يلي:

Pathogens: *Sonderhenia eucalypticola*; *Sonderhenia eucalyptorum*; *Sonderhenia radiata* ; **Genus:** *Sonderhenia* H.J. Swart & J. Walker, 1988 ,**Family:**

Mycosphaerellaceae,**Order:** Mycosphaerellales;**Subclass:**

Dothideomycetidae,**Class:** Dothideomycetes,**Subphylum:**

Pezizomycotina,**Phylum:** Ascomycota,**Subkingdom:** Dikarya,**Kingdom:** Fungi

اعتبر اسم الفطر 1988 *Sonderhenia eucalyptorum* (Hansf.) H.J. Swart & J. Walker, 1988
النوع الأصلي للجنس .*Sonderhenia*

ذكر الجنس الكيسية العائلة ضمن **Sonderhenia** الكيسية جنس كيسى وفق المصنف Mycosphaerellaceae Lindau, 1897
وكما يلى: Mycobank

A-C

Acervuloseptoria; Achorodothis; Acrocladium; Acrodesmis; Acrotheca; Allantophomoides; Amycosphaerella; Ancylospora; Anematidium; Anguillosporella; Annelosympodiella; Apseudocercosporella; Ascospora; AsperisporiumAustralosphaerella; Bertero myces; Biharia; Brunneosphaerella; Brunswickiella; Camptomeriphila; CaryophylloseptoriaCatenolaria; Catenulocercospora; Cercocladospora; Cercodeuterospora; Cercoramularia; Cercoseptoria; Cercosphaerella; Cercospora; Cercosporella; Cercosporidiium; Cercosporina; Cercosporiopsis; Cercostigmina; Chuppomyces; Cibiessia; Cladocillium; Clarohilum; Clypeispora; Clypeosphaerella; Collapsimycopappus; CollarisporaCollotogloeum; Coremiopassalora; Cyclodothis; Cymadothea;..

D-K

Davidiella; Davisoniella; Deightonella; Deightonomyces; Devonomyces; Dictyocephala; Dictyosporina; Didymaria; Didymellina; Diplochora; Diplochorella; Discella; Distocercospora; Distocercosporaster; Distomycovellosiella; Dothiostroma; Dothistroma Elletevera; Epicoleosporium; Epicymatia; Eriocercospora; Eriocercosporella; Eriocercosporella; Euryachora; Exutisphaerella; Filaspora; Filiella; Fulvia; Fusicladiella; Fusoidiella; Gillotia; Gomphinaria; Graminopassalora; Haplodothis; Helicobolus; Helicomina ; Hippopotamyces; Hyalocercosporidium; Hyalodictys; Hyalodothis; Hyalozasmidium ; Hypomycopsis; Isariopsella; Isariopsis; Jaczewskiella; Juncomyces; Kirramyces;

L-N

Laocoön; Lecanosticta; Lecanostictopsis; Lizoniella; Madagascaramyces; Marcosia; Melanodothis; Melanopsammopsis; Microcyclus; Micronectriella; Micronematomyces; Miuraea; Mucomycosphaerella; Mycodiella; Mycosphaerella; Mycosphaerelloides Mycovellosiella; Neoceratosperma; Neocercospora; Neocercosporidium; Neodeightoniella; Neokirramyces; Neomycosphaerella; Neopenidiella; Neophloeospora; Neopseudocercosporella; Neopseudocercospora; Neoramichloridium; Neoseptoria; Nothopass

alora; Nothopericoniella; Nothophaeocryptopus; Nothoseptoria; Nothotrimmatostroma;

O-Q

Oligostroma; Ophiocarpella; Ophiocladium; Oreophylla; Ovospaerella; Ovularia; Pac hyramichloridium; Pallidocercospora; Pantospora; Paracercospora; Paracercosporidium; Paramycosphaerella; Paramycovellosiella; Parapallidocercospora; Passalora; Pazschkeella; Pedrocrousiella; Periconiella; Phacellium; Phaeoisariopsis; Phaeophleospora; Phaeoramularia; Phaeothecoidea; Pharcidia; Pharcidiopsis; Phloeochora; Phloeospora; Placocrea; Pleopassalora; Pleuropassalora; Pluripassalora; Plurivorusphaerella; Polyp hialoseptoria; Polythrincium; Protostegia; Pruniphilomyces Pseudocercospora; Pseudocercosporella; Pseudocercosporidium; Pseudopericoniella; Pseudophaeophleospora; Pseudophaeoramularia; Pseudopuccinia; Pseudosphaerella; Pseudostigmidium; Pseudovularia; Pseudozasmidium; Quasiphloeospora;..


R-Z

Ragnhildiana; Ramichloridium; Ramosphaerella; Ramularia; Ramulariopsis; Ramulari sphaerella; Ramulispora; Rhabdospora; Rhachisphaerella; Rhopaloconidium; Rosiph aerella; Ruptoseptoria; Scirrhachora; Scolecostigmina; Semipseudocercospora; Septaria; Septocylindrium; Septoria; Septorisphaerella; Septosphaerella; Sirosporium; **Sonderhenia**; Spermophyllosticta; Sphaerella; Sphaerellothecium; Sphaeria alea; Sp haerulina Spilosphaeria; Stenellopsis; Stigmadium; Stigmina; Stromatoseptoria; Sultani myces; Tandonella; Tapeinosporium; Trochophora; Uwemyces; Vellosiella; Verrucispora; Verrucisporota; Virgasporium; Virosphaerella; Walkeromyces; Xenomycosphaer ella; Xenopassalora; Xenoramularia; Xenosonderhenia; Xenosonderhenioides; Zasmid ium; Zymoseptoria.

عرفت العائلة الكيسية 1897 **Mycosphaerellaceae** Lindau, 1897 بالاسم المرادف التالي (Synonym) : **Sphaerellaceae** Nitschke, 1869 225

https://www.google.com/search?q=image+of+Sonderhenia&rlz=1C1CHBF_enUS982US982&sxsrf=AOaemvLffQg0NweZuce5WOAnKu8e0NUVA:1642196616215&tbo=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=CpesiALrsZgUbM%252Cd3sVz-Y3cWz07M%252C%253BeWIkQdyZDF-M5M%252CvWLrgOTEIp8BM%252C%253Bei2sPYTMPNNvDM%252CokKSDorPHPGncM%252C%253B94jOfYz9HgyqBM%252C0fwHnP0blpu84M%252C%253B3KOHfPnxx7lklM%252C5RqmpDfs8bSE5M%252C%253BUVoVvpSonCVNaM%252CVtJfvpIvReLQIM%252C%253BGP-v9ojh4znd0M%252CCyf-0EAE#imgrc=GP-v9ojh4znd0M

Sphaerulina Leaf Spot Eucalyptus-LS82



اعراض تبقع الاوراق وتركيبات الفطر الكيسى المسبب *Sphaerulina cercidis* وكما يلى: B: مقطع خالل الكونيديوماتا (جسم بكتيني منجر مع كتلة من الأبواغ الكونيدية اللاجنسية، C: الخلايا المولدة للأبواغ الكونيدية، D: أبواغ كونيدية ، E: مستعمره فطرية على الوسط Oatmeal Agar (OA) . مقياس الرسم 10 ميكروميتير.

عزل الفطر الكيسى *Sphaerulina cercidis* من اعراض تبقع اوراق أحد اشجار اليوكاليبتوس نامية في أحد مناطق فرنسا. وصفت البقع بأنها بلونبني داكن، زاوية الشكل (Angular Spot) تحدها دائما عروق الورقة وتتراوح أقطارها ما بين 1 و 6 مليمتر . تتراوح أبعاد الأبواغ الكونيدية ما بين 30 و 40 X 2.5-3 ميكروميتير تتكون داخل البكتينيديا . يكون الفطر أكياسه البوغية داخل فجوات أو غرف داخل الأسكوماتا وتعرف موقع الأكياس البوغية ب Pseudothecia ويحوي كل كيس على جدارين (Bituncate Ascii)

صنف الفطر المسبب *Sphaerulina cercidis* ضمن المراتب التصنيفية التالية في القبيلة الكيسية ومملكة الفطريات وفق المصنف :Mycobank

Pathogen: *Sphaerulina cercidis* ,Genus: *Sphaerulina* Sacc., 1878,Family: Mycosphaerellaceae, Order: Mycosphaerellales, Subclass: Dothideomycetidae ,Class: Dothideomycetes, Subphylum: Pezizomycotina, Phylum: Ascomycota , Subkingdom: Dikarya, Kingdom: Fungi

عرف الجنس الكيسى 1878 *Sphaerulina* Sacc., 1878 بالإسمين المرادفين (Synonyms)

Ophiocarpella Theiss. & Syd., 1915& **Sphaerialea** Sousa da Câmara, 1926

ضم الجنس الكيسى 1878 *Sphaerulina* Sacc., 1878 نوع وفق المصنف 230 ما يقارب بضمها النوع الأصلي *Sphaerulina myriadea* (DC.) Sacc., 1878 و النوع المسبب لتبقع اوراق أشجار اليوكاليبتوس *Sphaerulina cercidis* وكما يلى:

Sphaerulina a-b

Sphaerulina abeliceae; Sphaerulina aceris; Sphaerulina acetabulum; Sphaerulina acori; Sphaerulina albispiculata; Sphaerulina amelanchieris; Sphaerulina amygdali; Sphaerulina antarctica; Sphaerulina assurgens; Sphaerulina baccarum; Sphaerulina betulae; Sphaerulina boudieriana; Sphaerulina bryophila;..

aechmeae; Sphaerulina alni; Sphaerulina amicta; Sphaerulina anemones; Sphaerulina arctica; Sphaerulina aucubae; Sphaerulina bambusicola; Sphaerulina blyttii; Sphaerulina

affinis; Sphaerulina amelanchier; Sphaerulina amphilomatis; Sphaerulina annae; Sphaerulina arthoniae; Sphaerulina azaleae; Sphaerulina berberidis; Sphaerulina bonariana; Sphaerulina

Sphaerulina c-d

*Sphaerulina callista; Sphaerulina camelliae; Sphaerulina camelliae; Sphaerulina carestiae; Sphaerulina caricae; Sphaerulina ceanothi; Sphaerulina centellae; **Sphaerulina** cetraricola; Sphaerulina cetrariicola; Sphaerulina chlorococca; Sphaerulina cibotii; Sphaerulina codiicola; Sphaerulina coffaeicola; Sphaerulina concinna; Sphaerulina conflictia; Sphaerulina cornicola; Sphaerulina corniculata; Sphaerulina coronillae-junceae; Sphaerulina corynephora; Sphaerulina cucumberis; Sphaerulina datiscae; Sphaerulina diapensiae; Sphaerulina divergens; Sphaerulina dolichotera; Sphaerulina dryophila; Sphaerulina dubiella;..*

cercidis; Sphaerulina chaenomelis; Sphaerulina citri; Sphaerulina coffeicola; Sphaerulina coriariae; Sphaerulina cucurbitae; Sphaerulina dioscoreae; Sphaerulina dryadis; Sphaerulina

Sphaerulina e-l

Sphaerulina empetri; Sphaerulina endococcoidea; Sphaerulina ferruginosa; Sphaerulina epigaea; Sphaerulina eucalypti; Sphaerulina fuegiana; Sphaerulina frondicola; Sphaerulina gigantea; Sphaerulina gentianae; Sphaerulina halophila; Sphaerulina helicicola; Sphaerulina hainensis; Sphaerulina inquinans; Sphaerulina hederae; Sphaerulina ipomoeae; Sphaerulina inaequalis; Sphaerulina juglandis; Sphaerulina intermixta; Sphaerulina iwatensis; Sphaerulina hamadryadum; Sphaerulina hyperici; Sphaerulina intermedia; Sphaerulina islandica; Sphaerulina koreana; Sphaerulina

leightonii; *Sphaerulina lepidiotae*; *Sphaerulina limnanthemi*; *Sphaerulina lini*; *Sphaerulina linicola*; *Sphaerulina ludwigiae*;..

Sphaerulina m-o

Sphaerulina mappiae; *Sphaerulina marattiae*; *Sphaerulina marginata*; *Sphaerulina maroccana*; *Sphaerulina marsileae*; *Sphaerulina maydis*; *Sphaerulina menispermi*; *Sphaerulina microthyrioides*; *Sphaerulina mimosae-pigrae*; *Sphaerulina miyakei*; *Sphaerulina musae*; *Sphaerulina muscicola*; *Sphaerulina muscorum*; *Sphaerulina musicola*; *Sphaerulina musiva*; *Sphaerulina myriadea*; *Sphaerulina myriadea subsp. *myriadea**; *Sphaerulina myrtillina*; *Sphaerulina naumovii*; *Sphaerulina neoaceris*; *Sphaerulina nephromiaria*; *Sphaerulina oleifolia*; *Sphaerulina orae-maris*; *Sphaerulina oryzae*; *Sphaerulina oryzina*; *Sphaerulina oxalidis*; *Sphaerulina oxyacanthae*;..

Sphaerulina p-r

Sphaerulina pallens; *Sphaerulina parvipuncta*; *Sphaerulina patriniae*; *Sphaerulina paulistana*; *Sphaerulina peckii*; *Sphaerulina pedicellata*; *Sphaerulina pelargonii*; *Sphaerulina phalaenopsisidis*; *Sphaerulina phellogenae*; *Sphaerulina phoenicis*; *Sphaerulina phyllostachydis*; *Sphaerulina pini*; *Sphaerulina plantaginea*; *Sphaerulina pleuropogonis*; *Sphaerulina polygonorum*; *Sphaerulina polypodii*; *Sphaerulina polyopodii*; *Sphaerulina polyspora*; *Sphaerulina populi*; *Sphaerulina populicola*; *Sphaerulina porothelia*; *Sphaerulina potebniae*; *Sphaerulina potentillae*; *Sphaerulina poterii*; *Sphaerulina primulicola*; *Sphaerulina pruni*; *Sphaerulina pseudovirgaureae*; *Sphaerulina pterocarpi*; *Sphaerulina pulii*; *Sphaerulina quercicola*; *Sphaerulina quercifolia*; *Sphaerulina quitensis*; *Sphaerulina rehmiana*; *Sphaerulina rhabdoclinis*; *Sphaerulina rhodeae*; *Sphaerulina rhododendri*; *Sphaerulina rhododendricola*; *Sphaerulina rubi*; *Sphaerulina rumicis*;..


Sphaerulina s-z

Sphaerulina saccardiana; *Sphaerulina saccardoana*; *Sphaerulina sacchari*; *Sphaerulina salicina*; *Sphaerulina sambucina*; *Sphaerulina schaereri*; *Sphaerulina scirpi*; *Sphaerulina serograptia*; *Sphaerulina silacincola*; *Sphaerulina socia*; *Sphaerulina spartii*; *Sphaerulina staphyleae*; *Sphaerulina staurochili*; *Sphaerulina steganostroma*; *Sphaerulina stereocaulorum*; *Sphaerulina subgen.*

Pharcidiella; *Sphaerulina* *subglacialis*; *Sphaerulina* *tabacinae*; *Sphaerulina* *taxicola*; *Sphaerulina* *tirolensis*; *Sphaerulina* *trifolii*; *Sphaerulina* *vaccinii*; *Sphaerulina* *vincae*; *Sphaerulina* *violae*; *Sphaerulina* *westendorpii*; *Sphaerulina* *yerbae*; *Sphaerulina* *ziziphi*; *Sphaerulina* *subgen.* *subtropica*; *Sphaerulina* *tanaceti*; *Sphaerulina* *tarda*; *Sphaerulina* *thujopsisidis*; *Sphaerulina* *todeae*; *Sphaerulina* *tritici*; *Sphaerulina* *valeriana*; *Sphaerulina* *viciae*; *Sphaerulina* *vulpina*; *Sphaerulina* *worsdellii*; *Sphaerulina* *xerophylli*; *Sphaerulina* *zizyphae*; *Sphaerulina* *zizyphi* *suchumica*; *Sphaerulina* *taxi*; *Sphaerulina* *tiliaris*; *Sphaerulina* *trapeae-bispinosae*; *Sphaerulina* *umbilicata*; *Sphaerulina* *viciae*; *Sphaerulina* *vulpina*; *Sphaerulina* *xerophylli*; *Sphaerulina* *zizyphi*

https://www.google.com/search?q=image+of+Sphaerulina&rlz=1C1CHBF_en_US982US982&sxsrf=AOaemvI9d-qNuTMlem5PtsqatBbw9QcnXQ:1642299462618&tbo=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=2tJkpz7-7flscM%252CQRlh3NDh_PVNM%252C_%253B6G8y_46csufn6M%252C3uqQgLEIpdxbvM%252C_%253B6usXz0ez3A9nmM%252C0RXRpFkYFNXKHM%252C_%253B7Kbl4FE2pHz9DM%252CL6t48L3yqBxDtM%252C_%253Bm1kMiq8HQS14-M%252CIqR8YMoffxfqzM%252C_%253BfA8bqy8UD0hGM%252CQRlh3NDh_PVNM%252C_%253B7mQsH-uoKUABkM%252C8XJIVeT-6Si18M%252C_%253BLvaZyfkHM639M%252CDW9ylb7CznwORM%252C_%253B-HKnEBKfb7QjSM%252Cu18Uf6qwVthSSM%252C_%253B1g7kbu7zrPZxZM%252C3uqQgLEIpdxbvM%252C_&usg=AI4_-kST4-7avgiy8FLPSTSc_3juJ5akZw&sa=X&ved=2ahUKEwimz9WgmrX1AhVYnWoFHQFGAXcQ9QF6BAgQEAE#imgrc=7Kbl4FE2pHz9DM

Stigmina Leaf Spot . تقع الجنس المرادف ستigmatina Eucalyptus-83



تراكيب أحد أنواع الجنس الكيسي *Stigmina* Sacc., 1880

تسبب ثلاثة أنواع من الجنس الكيسي المرادف *Stigmina* Sacc., 1880 وهي:

Stigmina" *eucalypticola* B. Sutton & Pascoe, 1989; *Stigmina*" *eucalyptorum* Crous & T. Coutinho, 1998 & *Stigmina*" *hansfordii* B. Sutton & Pascoe, 1989

أعراض تقع أوراق أشجار يوكاليبتوس في عدة مناطق من أستراليا وتanzania. تم تغيير إسم الجنس الكيسي *Stigmina* Sacc., 1880 وفق المصنفين Mycobank و Index Fungorum. من الجدير بالذكر بأن الإسم البديل للجنس *Stigmina* هو *Pseudocercospora* وفيه عدد من الأنواع تسبب تقع أوراق أشجار اليوكاليبتوس.

تنصف البقع التي تسببها تلك الأنواع بأنها مابين الدائرية أو شبه دائيرية، بألوان مابين البني الشاحب والبني الوسط، تصبح بلون إرجواني محمر أحياناً، ولاتحيطها أنسجة مرتفعة عن السطح.

بقع الفطر. *Pseudocercospora eucalypticola* S.K. Singh & Bhalla, 2000 **واسمه المرادف** *Stigmina eucalypticola* B. Sutton & Pascoe, 1989

توصف البقع التي يسببها الفطر المذكور بأنها على شكل تقع زاوي تحددها العروق الرئيسية والثانوية، وقد تزداد أحجام البقع لتشكل ما يشبه التلاخ (Leaf Blotch). تتراوح أبعاد الأبواغ الكونيدية مابين 30.5 و 90 ميكرومتر، مستقيمة، أو منحنية قليلاً، ناعمة الجدران، في كل بوج 4-2 حواجز، ذات أطراف عليا إسطوانية وقواعد هراوية الشكل. عزل الفطر من تقع أوراق شجرة يوكاليبتوس نامية في أحد مناطق الولاية الهندية Uttar Pradesh .

بقع الفطر : *Stigmina eucalyptorum* Crous & T. Coutinho, 1998 **بقع دائريه،** تتراوح قطراتها 1-3 مليمتر ، تكشف على الأوراق الحديثة والقديمة أو الكاملة ، بألوان مابين البني الشاحب ز المتوسط وقد تصبح بلون بني داكن تحيطها أنسجة مرتفعة عن السطح. تتراوح أبعاد الأبواغ الكونيدية التي تولد مفردة، بلون بني مابين 4-5 X 9-11 ميكرومتر فيها مابين 0-2 حاجز. عزل الفطر من أوراق شجرة يوكاليبتوس تابعة لنوع *Eucalyptus maidenii* ناميه في أحد مناطق تانزانيا . ومن الجدير بالذكر بأن *Pseudocercospora eucalyptorum* Crous, M. J. Wingf., Marasas & B. Sutton 1989

بقع الفطر تصل أقطار البقع إلى:*Stigmina hansfordii* B. Sutton & Pascoe, 1989

15 سم بلونبني شاحب لها حافات بلون إرجواني. تتراوح ابعاد الأبواغ الكونية 12-15 X 7-6 ميكرومتر وتولد ضمن غشاء جيلاتيني . عزل الفطر في أحد مناطق جنوب أستراليا على أوراق شجرة يوكاليبتوس تابعة النوع *Eucalyptus pyriformis*

تم تغيير إسم الجنس الكيسى 1880 Mycobank وفق المصنفين Index و *Stigmina* Sacc., 1880 الذي ضم ما يقارب 1700 نوع .

ننقل أدناه ما كتبنا عن تبعق **Pseudocercospora** الذي ذكر في الجزء الرابع وكما يلي:
تبعق پسيدوسيركوسپورا Pseudocercospora Leaf Spot



أعراض تبعق أوراق أشجار يوكاليبتوس وتراكيب الفطريات المسببه والتابعه للجنس الكيسى

وكما يلي: A-D: أعراض التبعق المتسبيه عن الفطر *Pseudocercospora*

E-I: أعراض وتراكيب الفطر *Pseudocercospora chiangmaiensis* ، F,G. ، *eucalyptorum*

المولدة للأبواغ الكونية ، H,I.

يسbib 26 نوع من الجنس الكيسي **Pseudocercospora** Speg., 1910 أعراض تقع أوراق أشجار اليوکالیپتوس في مناطق مختلفة من العالم، وكما يلي:

Pseudocercospora acerosa* U. Braun & M.A. Dick, 2002.** توصف البقع التي يسببها النوع بأنها شبه دائرية إلى غير منتiformة تتراوح أقطارها ما بين 1 و 10 مليمتر بلونبني شاحب إلى بني داكن، وقد تكون لها حافات ضيقة بلون غامق أو قد تحاط بحافات واضحة. يكون الفطر أبواغه الكونيدية بشكل إنفرادي وأبعادها 5.5-3 X 180-40 ميكروميتير، لها حواجز قد يصل عددها 15 حاجز ، شبه شفافة، أو بني شاحب يميل للزيتوني ، ناعمة الجدران، عزل النوع ***Pseudocercospora acerosa من أوراق شجرة يوكالیپتوس تابعة للنوع *Eucalyptus baxteri* نامية في مدينة كريست جيرج (Christchurch) الأسترالية.

تراوحت أبعاد البقع التي يسببها الفطر ***Pseudocercospora basiramifera* Crous,** 1998. مابين 2 و 10 مليمتر ، بلونبني غامق وحافات حمراء . يكون الفطر أبواغه الكونيدية بشكل إنفرادي وألوانها زيتوني شاحب، ناعمة الجدران، لها 3-10 حواجز ، بأبعاد ما بين 50 و 70 ميكروميتير طولاً و 2 ميكروميتير عرضاً. عزل الفطر من شجرة يوكالیپتوس تابعة للنوع *Eucalyptus pellita* نامية في ثايلاند .

بقع الفطر 1998 *Pseudocercospora basitrunca* Crous, 1998 : تصل أقطار البقع المتسبيبة عن الفطر المذكور 20 مليمتر ، شبه دائرية ، أو غير منتظمه، أو تكون بأشكال زاوية (Angular Spots) ، بلونبني شاحب تصبح بلونبني غامق قرب حود البقع مع حواف رفيعة ، بلونبني محمر. تكشف على الجوانب السفلية للأوراق المصابة إصابة بلونبني فاتح بدون حواضف . تكون الأبواغ الكونيدية إنفراديًا بالألوان زيتوني شاحب أو بني شاحب. يوجد في كل بوغ كونيدي 16 حاجز ، وأبعاد البوغ ما بين 45 و 70 ميكروميتير وبعرض 3-2 ميكروميتير. عزل الفطر المذكور من أوراق شجرة يوكالیپتوس نامية في أحد مناطق كولومبيا .

بقع الفطر 2008 *Pseudocercospora chiangmaiensis* Cheew. et al., 2008 : تتراوح أبعاد البقع ما بين 2 و 6 مليمتر ، بلونبني شاحب وتتراوح أبعاد الأبواغ الكونيدية 50-60 ميكروميتير ، في كل بوغ 3-5 حواجز ، وقد تصل أطوالها 140 ميكروميتير عند تحضين مناطق الإصابة تحت ظروف حرارة ورطوبة مناسبة. عزل الفطر المذكور من شجرة يوكالیپتوس تابعة للنوع *Eucalyptus camaldulensis* في أحد مناطق ثايلاند .

بقع الفطر 2012 *Pseudocercospora crispans* G.C. Hunter & Crous, 2012 عزل الفطر من شجرة يوكالیپتوس نامية في أحد مناطق Western Cape في جنوب أفريقيا. تتراوح أبعاد الأبواغ الكونيدية 4-2 X 96-65 ميكروميتير بلونبني شاحب وكل بوغ 3-9 حواجز . تتركز البقع قريباً من العرق الوسطي.

بقع الفطر 2002 *Pseudocercospora crousi* U. Braun & M.A. Dick, 2002 تترواح أقطار البقع 1-15 ميكروميتير بلونبني محمر وقد تزداد في الحجم . تتحول الألوان الأنسجة المصابة مع الزمن إلى اللون البني المائل للرمادي بحافات غامقة . توصف الأبواغ الكونيدية بأنها زيتونية اللون مائل للبني الشاحب، بأبعاد 5-3 X 115-35 ميكروميترو لكل بوغ 4 إلى 10 حواجز. عزل الفطر المذكور من أوراق شجرة يوكالیپتوس تابعة للنوع *Eucalyptus regnans* في أحد غابات نيوزيلاند .

بقع الفطر 1998 *Pseudocercospora cubae* Crous, 1998 : تتصف بقع الفطر بأنها صغيرة لا تتجاوز 5 مليمتر ، غير منتiformة، بلونبني شاحب بينما يكون بلونبني متوسط على الأنسجة المحيطة بالبقعة وقد يكون للبقعة حافة رفيعة بلون إرجواني محمر وقد لا تتوارد حافات حول البقع. تترواح أبعاد

الأبواغ الكونيدية مابين 30-40 X 2.5-3 ميكرومتر، وقد لا يوجد أي حاجز في البوغ الكونيدي أو قد يكون هناك 3-1 حاجز. عزل الفطر من أوراق أحد أشجار اليوكاليبتوس النامية في كوبا.

بق الفطر *Pseudocercospora deglupta* Crous, 1998: تترواح قطرات البقع التي تتكشف على أوراق أشجار يوكاليبتوس تابعة للنوع *Eucalyptus deglupta* في أحد مناطق ماليزيا مابين 5 و 15 مليمتر ، شبه دائريّة، بألوانبني غامق على السطح العلوي وبني فاتح عند السطح السفلي. يكون الفطر أبوااغه الكونيدية ذات اللون البنّي المتوسط، والجدران السميكه، يحوي البوغ على 0-8 حاجز وأبعادها مابين 45 و 70 ميكرومتر وبعرض مابين 3.5-4 ميكرومتر.

بق الفطر *Pseudocercospora denticulata* Crous, 1998: تتفاوت أحجام البقع التي يسببها الفطر المذكور مابين ترقيط غير منتظم، أو زاوية الشكل يحددها دوماً عروق الورقة. تراوحت قطرات البقع مابين 1 و 8 مليمتر تحبيطها أنسجة مرتفعة قليلاً وقد يكون لها حافات بلون إرجواني محمر ومرأكز بلونبني فاتح. يتراوح طول الأبوااغ الكونيدية 40-50 ميكرومتر وبعرض لايزيد عن 2.5 ميكرومتر. عزل الفطر من أوراق شجرة يوكاليبتوس نامية في أحد مناطق جمهورية الدومينican.

***Pseudocercospora epispermogonia* Crous & M.J. Wingf., 1996:** عزل الفطر من أوراق شجرة يوكاليبتوس تابعة للهجين Tzaneen في جنوب أفريقيا. تتراوح أبعاد الأبوااغ الكونيدية 28-65 X 2-3 ميكرومتر، وهناك مابين 1 و 7 حاجز في البوغ الواحد . أتصفت الأبوااغ الكونيدية بأن جدرانها ناعمة، مستقيمة أو منحنية قليلاً، بألوان زيتوني شاحب. ومن الجدير بالذكر بأن جميع مواصفات الأبوااغ الكونيدية قد تم الحصول عليها نتيجة زراعة بوغ كيس واحد ، بينما فشلت الأبوااغ الكونيدية في الإنبات وتكون مستمرة .

بق الفطر *Pseudocercospora eucalypticola* S.K. Singh & Bhalla, 2000:

توصف البقع التي يسببها الفطر المذكور بأنها على شكل تقع زاوي تحددها العروق الرئيسية والثانوية، وقد تزداد أحجام البقع لتشكل ما يشبه التلاظخ (Leaf Blotch). تتراوح أبعاد الأبوااغ الكونيدية مابين 30.5 و 90 ميكرومتر، مستقيمه، أو منحنية قليلاً، ناعمة الجدران، في كل بوغ 4-2 حواجز ، ذات أطراف عليا إسطوانية وقواعد هراوية الشكل. عزل الفطر من تقع أوراق شجرة يوكاليبتوس نامية في أحد مناطق الولاية الهندية Uttar Pradesh.

بق الفطر 1989 *Pseudocercospora eucalyptorum* Crous et al., 1989: وهو الإسم البديل للفطر تتراوح قطرات البقع التي يسببها الفطر المذكور مابين 3 و 10 مليمتر ، شبه دائريّة الشكل أو على شكل تقع زاوي (Angular Leaf Spot)، بلونبني شاحب، محاطة بنسيج مرتفعبني اللون. يكون الفطر أبوااغه الكونيدية بشكل إفرادي، وبلونبني شاحب، ذات جدران ناعمه، وأشكال إسطوانية، ذات قواعد مسطحة وأطراف مدوره، مستقيمه أو منحنية قليلاً، تتراوح أبعادها 30-65 X 2.5-3 ميكرومتر، وهناك 6-3 حواجز في البوغ الكونيدي. عزل الفطر من أوراق شجرة يوكاليبتوس تابعة للنوع *Eucalyptus nitens* نامية في غرب محافظة Western Cap في جنوب أفريقيا. ومن الجدير بالذكر بأن الفطر المذكور من الفطريات الشائعة على أوراق اليوكاليبتوس القديمة أو الكاملة. كما تسبب الأنواع التالية من الجنس الكيسى 1910 *Pseudocercospora* Speg., أعراض تقع أوراق أشجار يوكاليبتوس في مناطق مختلفة من العالم وكما يلي:

1. ***Pseudocercospora flavomarginata* G.C. Hunter et al., 2006**
2. ***Pseudocercospora fori* (G.C. Hunter et al.) G.C. Hunter et al., 2009.**

3. *Pseudocercospora haiweiensis* Crous & X. Zhou, 2012
4. *Pseudocercospora irregularis* Crous, 1998
5. *Pseudocercospora madagascariensis* Crous & M.J. Wingf., 2009
6. *Pseudocercospora natalensis* Crous & T.A. Cout., 1998
7. *Pseudocercospora norchiensis* Crous, 2007
8. *Pseudocercospora paraguayensis* (Kobayashi) Crous, 1996.
9. *Pseudocercospora robusta* Crous & M.J. Wingf., 1998.
10. *Pseudocercospora sphaerulinae* Crous & M.J. Wingf., 2003
11. *Pseudocercospora subulata* Z.Q. Yuan *et al.*, 2000
12. *Pseudocercospora tereticornis* Crous & Carnegie, 2009
13. *Pseudocercospora tumulosa* (Carnegie & Beilharz) Carnegie & Crous,

ومن الجدير بالذكر بأن فطريات الجنس الكيسي 1910 ***Pseudocercospora*** Speg., تكون أبواغها الكيسيّة داخل أكياس متواجدة في فجوات داخل تراكيب الأسكوماتا ويطلق على هذا النوع من الأجسام **Pseudothecia** تتواجد بشكل متفرق أو على شكل تجمعات. تتصرف الأكياس بوجود جدارين . (Bitunicate Asci)



تراكيب فطريات الجنس ***Pseudocercospora*** وفيها تجمعات الحوامل الكونيّية والخلايا المولدة والأبواغ الكونيّية



أعراض التبعع على السطحين العلوي والسفلي لأوراق أحد العوائل ، الأبواغ الكونيدية المحمولة على حوالملها لأحد أنواع الجنس **Pseudocercospora**


يعتبر الجنس **Pseudocercospora** من الأجناس الفطرية الكبيرة في مملكة الفطريات بشكل عام والقبيلة الكيسية بشكل خاص ، حيث يضم أكثر من 1700 نوع فيها أعداد كبيرة من ممرضات النبات تسبب أمراض التبعع واللفحات . أعتبر الفطر **Pseudocercospora vitis** (Lév.) Speg. 1910 النوع الأصلي (Type Species) للجنس المذكور. تم تأكيد عائنية الجنس **Pseudocercospora** Speg., 1911 في المصنف Mycobank حيث ذكرت أسماء ما يقارب 1830 نوع ضمن الجنس الذي صنف ضمن العائلة الكيسية **Mycosphaerellaceae** التابعة للرتبة **Capnodiales** ، إحدى رتب الصف الكيسية .Dothideomycetes

عرف الجنس **Pseudocercospora** سابقاً بأسماء عديدة عدّت حالياً أسماء مرادفة (Synonyms) وكما يلي:

Ancylospora Sawada, 1944 ; **Cercocladospora** G.P. Agarwal & S.M. Singh, 1974]; **Cercoseptoria** Petr., 1925 ; **Cercosporiopsis** Miura, 1928] ; **Ciferriella** Petr., 1930 ; **Dictyocephala** A.G. Medeiros ; **Helicomina** L.S. Olive, 1948] ; **Jaczewskiella** Murashk., 1926 ; **Macraea** Subram., 1953 ; **Marcosia** Syd. & P. Syd., 1916 ; **Neopseudocercospora** Crous, 2013] ; **Phaeoisariopsis** Ferraris, 1909 ; **Prathigada** Subram., 1956 ; **Pseudopuccinia** Höhn., 1925 ; **Rhopaloconidium** Petr., 1952 ; **Semipseudocercospora** J.M. Yen, 1983]; **Septoriopsis** F. Stevens & Dalbey, 1918; **Stigma** Sacc., 1880.

وبسبب وجود تخصص عائلي لبعض الأنواع كما لوحظ في النوعين *Pseudocercospora* **المسبان** *Pseudocercospora eucalyptorum* *eucalypticola* **اليوكاليبتوس** فقد سميت أنواع من الجنس على أسماء أجناس العوائل التي تسبب على سطوح أوراقها أعراض التبقع، وكما موضح في الشكل المرفق أدناه...

A: *Pseudocercospora fatouae* on *Fatoua villosa*; **B:** *Pseudocercospora clematidis* on *Clematis apiicola*; **C:** *Pseudocercospora griseola* on *Phaseolus vulgaris*; **D:** *Pseudocercospora rhododendron-indici* on *Rhododendron indicum*; **E:** *Pseudocercospora pyracanthae* on *Pyracantha angustifolia*; **F:** *Pseudocercospora lonicericola* on *Lonicera japonica*; **G:** *Scolecostigmina mangiferae* on *Mangifera indica*; **H:** *Pseudocercospora fraxinites* on *Fraxinus rhynchophylla*; **I:** *Pseudocercosporella potentillae* on *Potentilla kleiniana* **J:** *Pseudocercospora udagawana* on *Hovenia dulcis*.



أعراض التبقع على أوراق مجموعة من العوائل النباتية بسبب عدد من أنواع الجنس الفطري الكيسى *Pseudocercospora*

ينصوي تحت الجنس **Pseudocercospora** Speg. 1910 الأنواع التالية والتي تزيد عن 1700 وكما يلي:

Pseudocercospora a...

Pseudocercospora abacopteridicola (J. M. Yen & Lim) J. M. Yen 1980;
Pseudocercospora abeliae (Katsuki) Nishij., C. Nakash. & Tak. Kobay. 1999
Pseudocercospora abelmoschi (Ellis & Everh.) Deighton 1976; *Pseudocercospora aberrans* (Petr.) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora abri* Deighton 1987
Pseudocercospora abricola (Boedijn) U. Braun 2001 ;*Pseudocercospora*

abutilonicola (Chupp) U. Braun & Crous 2002 ;*Pseudocercospora acaciae* Kamal & R. P. Singh 1980 ;*Pseudocercospora acaciae-confusae* (Sawada) Goh & W. H. Hsieh 1989 ;*Pseudocercospora acaciigena* Crous & M.J. Wingf. 2004 ;*Pseudocercospora acalyphae* (Lacy & Thirum.) Raghu Ram, Mallaiah & U. Braun 1995 ;*Pseudocercospora acalyphicola* (J. M. Yen) J. M. Yen 1980 ;*Pseudocercospora acalyphincola* (Petr.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora acanthi* Deighton 1987 ;*Pseudocercospora acericola* (Woron.) Y. L. Guo & X. J. Liu 1992 ;*Pseudocercospora acerosa* U. Braun & M.A. Dick 2002 ;*Pseudocercospora acetosellae* (Ellis) U. Braun 1997 ;*Pseudocercospora aciculina* (Chupp) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora aciotidis* (Chupp) U. Braun & Crous 2002 ;*Pseudocercospora ackamae* U. Braun & C.F. Hill 2008 ;*Pseudocercospora actinidiae* Deighton 1976 ;*Pseudocercospora actinidiicola* Goh & W. H. Hsieh 1989 ;*Pseudocercospora actinostemmatis* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora adenosmae* Y. L. Guo 2001 ;*Pseudocercospora adianti* (Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora adinandrae* Y. L. Guo & X. J. Liu 1992 ;*Pseudocercospora adinicola* (A. K. Kar & M. Mandal) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora adonidis* (Gonz. Frag.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora aethiopicae* Deighton 1976 ;*Pseudocercospora afgoiensis* E. Castell. & Gullino 1983 ;*Pseudocercospora agarwalii* (Chupp) P. K. Chi 1994 ;*Pseudocercospora agarwalii* (Chupp) U. Braun & Bagyan. 1999 ;*Pseudocercospora ageratoides* (Ellis & Everh.) Y. L. Guo 1993 ;*Pseudocercospora agharkarii* (Chidd.) Crous & M.E. Palm 1999 ;*Pseudocercospora ahmadiana* U. Braun 1995 ;*Pseudocercospora ailanthicola* (Patw.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora ailanthigena* H. S. Rao, Arch. Singh & Kamal 1996 ;*Pseudocercospora alangii* Y. L. Guo & X. J. Liu 1989 ;*Pseudocercospora alchemillae* (Syd.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora aleuritis* (I. Miyake) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora allamandae* (J.M. Yen) J.M. Yen 1980 ;*Pseudocercospora allophyli* (Hansf.) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora allophylicola* Deighton 1987 ;*Pseudocercospora allophylina* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora allophylorum* (A.K. Kar & M. Mandal) Bagyan., U. Braun & Jagad. 1995 ;*Pseudocercospora alocasiicola* U. Braun & McKenzie 1999 ;*Pseudocercospora alphitoniae* (B. Huguenin) U. Braun & Mouch. 1999 ;*Pseudocercospora alphitoniae* (Petr.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora alpiniae* S. Q. Chen & P. K. Chi 1990 ;*Pseudocercospora alpiniae* S. Q. Chen & P. K. Chi 1994 ;*Pseudocercospora alpiniae-katsumadicola* (S. Q. Chen & P. K. Chi) P. K. Chi 1994 ;*Pseudocercospora alpiniae-katsumadicola* (S.Q. Chen & P.K. Chi) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora alpiiniicola* S. Q. Chen & P. K. Chi 1990 ;*Pseudocercospora alpiiniicola* S. Q. Chen & P. K. Chi 1994 ;*Pseudocercospora alstoniae* Goh & W. H. Hsieh 1989 ;*Pseudocercospora*

alternantherae J. M. Yen, A. K. Kar & B. K. Das 1982 ;*Pseudocercospora alternantherae-nodiflorae* (Sawada) Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora alternanthericola* (Pavgi & U. P. Singh) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora amaranthicola* (J. M. Yen) J. M. Yen 1978 ;*Pseudocercospora amazoniae* U. Braun & F.O. Freire 2004 ;*Pseudocercospora amomi* (A. K. Kar & M. Mandal) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora amooreae* A. K. Das 1991 ;*Pseudocercospora anacardii* E. Castell. & Casulli 1981 ;*Pseudocercospora anemopsisidis* (Chupp) U. Braun & Crous 2002 ;*Pseudocercospora angiopteridis* Goh & W. H. Hsieh 1989 ;*Pseudocercospora angolensis* (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun 2003 ;*Pseudocercospora angulomaculae* (A.K. Kar & M. Mandal) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora angulomaculae* (A.K. Kar & M. Mandal) W.H. Hsieh & Goh 1989 ;*Pseudocercospora angulomaculae* var. *angulomaculae* (A.K. Kar & M. Mandal) W.H. Hsieh & Goh 1989 ;*Pseudocercospora angulomaculae* var. *gorakhpurensis* (H.S.G. Rao, S. Chandra & Kamal) U. Braun 2000 ;*Pseudocercospora angustata* (Chupp & Solheim) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora anisomelicola* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora anisomelicola* var. *anisomelicola* Sawada ex Goh & W.H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora anisomelicola* var. *ramosa* P. N. Singh, Kharwar & H. S. G. Rao 1997 ;*Pseudocercospora anisomelicola* Y. L. Guo & X. J. Liu 1989 ;*Pseudocercospora annonacea* (Kamal, Narayan & R. P. Verma) U. Braun 1994 ;*Pseudocercospora annonae* U. Braun & Crous 2002 ;*Pseudocercospora annonaesquamosae* U. Braun & R. F. Castañeda 1989 ;*Pseudocercospora annonarum* (Petr. & Cif.) U. Braun & Crous 2008 ;*Pseudocercospora annonicola* Goh & W. H. Hsieh 1990 ;*Pseudocercospora annonifoliae* (Bat. & Peres) U. Braun & F.O. Freire 2003 ;*Pseudocercospora anogeissi* U. Braun & Kamal 2003 ;*Pseudocercospora anomala* (Berk. & M. A. Curtis) de Hoog 1992 ;*Pseudocercospora anthocephali* (Ts. Kobay.) Deighton 1990 ;*Pseudocercospora anthocleistae* (J. M. Yen & Gilles) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora antidesmatis* (A. K. Kar & M. Mandal) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora aphanamixidis* M. K. Khan, M. S. Khan bis & Kamal 1994 ;*Pseudocercospora apocynacearum* B. K. Gupta & Kamal 1987 ;*Pseudocercospora aracearum* U. Braun & McKenzie 1999 ;*Pseudocercospora arachnioidis* Y. L. Guo 1993 ;*Pseudocercospora araliae* (Henn.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora aranetae* Borlaza & Roldan ex J. M. Yen 1980 ;*Pseudocercospora aranetae* Borlaza & Roldan ex J. M. Yen 1980 ;*Pseudocercospora ardisiicola* B. K. Gupta & Kamal 1987 ;*Pseudocercospora arecacearum* U. Braun & C.F. Hill 2006 ;*Pseudocercospora argyreiae* (Govindu & Thirum.) A. K. Das & Sarbjna 1990 ;*Pseudocercospora argyreiae* (J. M. Yen, A. K. Kar & B. K. Das) Deighton 1990 ;*Pseudocercospora argyrolobii* (Chupp & Doidge) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora argythamniae* (Dearn. & House) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora aristoteliae* (Cooke) Deighton 1976

;Pseudocercospora arrabidaeae R. Kirschner 2006 ;*Pseudocercospora artanthes* (Henn.) Crous, Alfenas & R. W. Barreto 1997 ;*Pseudocercospora artemisiicola* Y. L. Guo 1997 ;*Pseudocercospora arthrospora* D.J. Soares, R.W. Barreto & U. Braun 2009 ;*Pseudocercospora artocarpi* (Syd. & P. Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora artocarpicola* U. Braun & McKenzie 1999 ;*Pseudocercospora arunjae* B. Sutton 1994 ;*Pseudocercospora asclepiadina* (Speg.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora asiatica* H. S. G. Rao, Arch. Singh & Kamal 1998 ;*Pseudocercospora asiminae* (Ellis & Morgan) U. Braun & Crous 2008 ;*Pseudocercospora asiminae-pygmaeae* U. Braun 1995 ;*Pseudocercospora asphodelina* (Sacc.) U. Braun 1993 ;*Pseudocercospora aspidospermatis* (Bat., Peres & R. Garnier) Dianese & M. P. S. Câmara 1993 ;*Pseudocercospora aspidospermatis* (Bat., Peres & R. Garnier) Dianese & M. P. S. Câmara 1993 ;*Pseudocercospora aspidospermatis* (Bat., Peres & R. Garnier) Dianese & M. P. S. Câmara 1993 ;*Pseudocercospora assamensis* Arzanlou & Crous 2008 ;*Pseudocercospora asteracearum* R. K. Verma & Kamal 1992 ;*Pseudocercospora astronii* A. Hern. Gut. & Dianese 2009 ;*Pseudocercospora astroniicola* U. Braun & F. O. Freire 2003 ;*Pseudocercospora astroniiphila* A. Hern. Gut. & Dianese 2009 ;*Pseudocercospora asystasiae* (J. M. Yen) J. M. Yen 1980 ;*Pseudocercospora athyrii* Goh & W. H. Hsieh 1989 ;*Pseudocercospora atrofiliformis* (J. M. Yen, T. C. Lo & C. C. Chi) J. M. Yen 1981 ;*Pseudocercospora atromarginalis* (G. F. Atk.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora atrovelutina* Deighton 1976 ;*Pseudocercospora atylosiae* (Thirum. & Govindu) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora austroplenckiae* A. Hern. Gut. & Dianese 2009 ;*Pseudocercospora avicenniae* R.G. Shivas, A.J. Young & Crous 2009 ;*Pseudocercospora avicularis* (G. Winter) A. Z. M. Khan & Shamsi 1983 ;*Pseudocercospora azanzae* (Yadav) Deighton 1976
.....

Pseudocercospora b....

Pseudocercospora bacilligera (Berk. & Broome) Y. L. Guo & X. J. Liu 1989 ;*Pseudocercospora bagdogrensis* (A. K. Kar & M. Mandal) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora bakeriana* Deighton 1976 ;*Pseudocercospora baliospermi* (S. Chowdhury) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora balsaminae* (Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora balsamincola* (J.M. Yen & Lim) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora bambusae* Saikia & A. K. Sarbhoy 1986 ;*Pseudocercospora bangalorensis* (Thirum. & Chupp) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora baphiae* Deighton 1981 ;*Pseudocercospora baphicacanthi* Goh & W. H. Hsieh 1989 ;*Pseudocercospora barleriae* (J. M. Yen & Lim) U. Braun 2001 ;*Pseudocercospora barnadesiae* (Petr.) U. Braun 1993 ;*Pseudocercospora barringtoniae* (Syd. & P. Syd.) A. Z. M. Khan & Shamsi 1983 ;*Pseudocercospora barringtoniae-acutangulae* U. Braun & Mouch. 2000 ;*Pseudocercospora*

barringtoniicola U. Braun & Mouch. 1999 ;*Pseudocercospora barringtoniigena* U. Braun & Mouch. 2000 ;*Pseudocercospora baruipurensis* Sarbajna 1990 ;*Pseudocercospora basellae* Goh & W. H. Hsieh 1989 ;*Pseudocercospora basiramifera* Crous 1998 ;*Pseudocercospora basitrunnata* Crous 1998 ;*Pseudocercospora bastiana* Kamal, A. N. Rai & A. S. Moses 1991 ;*Pseudocercospora bauhiniae* (Syd. & P. Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora bauhiniicola* (J. M. Yen) J. M. Yen 1978 ;*Pseudocercospora bauhiniigena* M. K. Khan, M. S. Khan bis & Kamal 1994 ;*Pseudocercospora beilschmiediae* U. Braun & C.F. Hill 2003 ;*Pseudocercospora berberidis-vulgaris* S. P. Gautam, P. K. Rajak & Malaviya 1983 ;*Pseudocercospora bernardiae* (F. Stevens) U. Braun 2001 ;*Pseudocercospora berryae* Deighton 1979 ;*Pseudocercospora bertholletiae* (F.C. Albuq.) U. Braun & F.O. Freire 2004 ;*Pseudocercospora besleriae* U. Braun & R. Urtiaga 2008 ;*Pseudocercospora bhopalensis* Deighton 1976 ;*Pseudocercospora bignoniacearum* B. K. Gupta & Kamal 1987 ;*Pseudocercospora biophytii* (Syd. & P. Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora biophyticola* P. N. Singh, Kharwar & H. S. G. Rao 1997 ;*Pseudocercospora bischofiae* (W. Yamam.) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora bischofiae* (W. Yamam.) Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora bixae* (Allesch. & F. Noack) Crous, Alfenas & R. W. Barreto 1997 ;*Pseudocercospora bixicola* Goh & W. H. Hsieh 1990 ;*Pseudocercospora blechi* U. Braun, Crous & N. Pons 2002 ;*Pseudocercospora blepharis* (Chidd.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora blumeae* (Thüm.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora blumeae-balsamiferae* (Sawada) Y. L. Guo & X. J. Liu 1989 ;*Pseudocercospora blumeae-balsamiferae* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora blumeae-oxyodontae* H. S. G. Rao & S. Narayan 1999 ;*Pseudocercospora boedijniana* U. Braun 2001 ;*Pseudocercospora boehmeriae* (Peck) Y. L. Guo & X. J. Liu 1989 ;*Pseudocercospora boehmeriae* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1989 ;*Pseudocercospora boehmeriigena* U. Braun 1997 ;*Pseudocercospora bolkanii* Furlan. & Dianese 1999 ;*Pseudocercospora bolleana* (Thüm.) Sivan. 1984 ;*Pseudocercospora bombacina* (T. S. Ramakr. & K. Ramakr.) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora bomplandiana* (Speg.) U. Braun 2000 ;*Pseudocercospora bonducellae* (Henn.) U. Braun, Dianese & A. Hern. Gut. 2009 ;*Pseudocercospora bonjeaniae* (Maire) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora boraginis* (G.P. Agarwal & N.D. Sharma) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora boringuensis* (E. Young) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora borrhiae* (Ellis & Everh.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora bougainvilleae* Y. L. Guo 1999 ;*Pseudocercospora brachypoda* (Speg.) U. Braun 2000 ;*Pseudocercospora brachypus* (Ellis & Everh.) Y. L. Guo & X. J. Liu 1992 ;*Pseudocercospora bradburyae* (E. Young) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora brasiliensis* U. Braun & F.O. Freire 2004 ;*Pseudocercospora brassicae* U. Braun & McKenzie 1999 ;*Pseudocercospora bretschneiderae* X. J. Liu & Y. L. Guo 1992

;Pseudocercospora brevis B. Sutton 1994 ;*Pseudocercospora breyniae-rhamnoidis* (Thirum. & Govindu) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora briareus* (Ellis & Everh.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora brideliae* Deighton 1976 ;*Pseudocercospora brideliicola* J. M. Yen, A. K. Kar & B. K. Das 1982 ;*Pseudocercospora brideliigena* H. S. Rao, Arch. Singh & Kamal 1996 ;*Pseudocercospora broussonetiae* (Chupp & Linder) Y. L. Guo & X. J. Liu 1989 ;*Pseudocercospora bruceae* (Petch) Y. L. Guo & X. J. Liu 1989 ;*Pseudocercospora bruneiensis* U. Braun & Sivap. 1999 ;*Pseudocercospora buddlejae* (W. Yamam.) Goh & W.H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora buteae* Kamal, R. P. Singh & D. N. Shukla 1980 ;*Pseudocercospora butleri* (Syd.) U. Braun 2000 ;*Pseudocercospora butleri* var. *butleri* (Syd.) U. Braun 2000 ;*Pseudocercospora butleri* var. *effusa* (U. Braun & Sivap.) U. Braun 2000 ;*Pseudocercospora byliana* (Syd. & P. Syd.) J. M. Yen 1980 ;*Pseudocercospora byrsinimatis* (Maubl.) U. Braun & Mouch. 2000.....

Pseudocercospora c....

Pseudocercospora cadabae (Thirum. & Govindu) U. Braun 1995 ;*Pseudocercospora caesalpiniae* Goh & W. H. Hsieh 1989 ;*Pseudocercospora caesalpinigena* U. Braun 2004 ;*Pseudocercospora caesalpiniicola* U. Braun, Dianese & A. Hern. Gut. 2009 ;*Pseudocercospora cajani-flavi* Y.L. Guo & X.J. Liu 1992 ;*Pseudocercospora cajanicola* (Pavgi & R. A. Singh) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora callicaruae* (Cooke) Y. L. Guo & W. X. Zhao 1989 ;*Pseudocercospora callicarpicola* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1989 ;*Pseudocercospora caloloma* (Petr.) U. Braun 1995 ;*Pseudocercospora calopogonii* (F. Stevens & Solheim) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora calospilea* (Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora calotropidis* (Ellis & Everh.) Haldar & J. B. Ray 2001 ;*Pseudocercospora camelliae* (Deighton) U. Braun 1993 ;*Pseudocercospora camelliicola* U. Braun & C. F. Hill 2002 ;*Pseudocercospora campanulae* U. Braun & Crous 2007 ;*Pseudocercospora campanumoeae* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora camptotheciae* X. J. Liu & Y. L. Guo 1987 ;*Pseudocercospora canavaliae* (Syd. & P. Syd.) J. M. Yen 1982 ;*Pseudocercospora canavaliigena* J. M. Yen & Lim 1982 ;*Pseudocercospora cannabina* (Wakef.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora cantuariensis* (E. S. Salmon & Wormald) U. Braun 1993 ;*Pseudocercospora capensis* Crous & B. Sutton 1997 ;*Pseudocercospora caperoniae* (L. S. Olive) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora carbonacea* (Miles) N. Pons & B. Sutton 1988 ;*Pseudocercospora careyae* (T. S. Ramakr. & K. Ramakr.) R. K. Verma, M. K. Khan & Kamal 1989 ;*Pseudocercospora carissae* B. B. Singh & P. Mukerjee 1980 ;*Pseudocercospora carolinensis* (Tharp) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora carpentariae* Deighton 1987 ;*Pseudocercospora carrii* (Barthol.) U. Braun 1999 ;*Pseudocercospora carveriana* (Sacc. & D. Sacc.)

Crous & M. P. S. Câmara 1999 ; *Pseudocercospora caseariae* (F. Stevens) U. Braun & Sivap. 1999 ; *Pseudocercospora caseariigena* H. S. G. Rao, S. Chandra & Kamal 1995 ; *Pseudocercospora cassiae-alatae* (J. M. Yen & Lim) J. M. Yen 1980 ; *Pseudocercospora cassiae-diphyllae* U. Braun 1989 ; *Pseudocercospora cassiae-fistulae* Goh & W. H. Hsieh 1990 ; *Pseudocercospora cassiae-occidentalis* (J. M. Yen) J. M. Yen 1981 ; *Pseudocercospora cassiae-siameae* (Chidd.) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora cassiae-sophorae* S. K. Singh & Bhalla 2000 ; *Pseudocercospora cassiigena* (J. M. Yen & Lim) J. M. Yen 1980 ; *Pseudocercospora castaneae* U. Braun & Crous 2003 ; *Pseudocercospora catalpicola* U. Braun 1999 ; *Pseudocercospora catalpigena* U. Braun & Crous 2003 ; *Pseudocercospora catappae* (Henn.) Y. L. Guo & X. J. Liu 1989 ; *Pseudocercospora catappae* Goh & W. H. Hsieh 1990 ; *Pseudocercospora caudata* (J. Kranz) U. Braun 2000 ; *Pseudocercospora cavarae* (Sacc. & D. Sacc.) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora ceanothi* (Kellerm. & Swingle) Y. L. Guo & X. J. Liu 1989 ; *Pseudocercospora cecropiae* (F. Stevens) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora cecropiicola* Deighton 1976 ; *Pseudocercospora cecropiigena* U. Braun & F. O. Freire 2003 ; *Pseudocercospora cedrelae* (S. Chowdhury) T. K. De 1992 ; *Pseudocercospora cedrelae-mexicanae* U. Braun & Crous 2003 ; *Pseudocercospora celastri* S. Singh 1979 ; *Pseudocercospora celosiarum* (A. K. Kar & M. Mandal) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora centellae* Rashm. Dubey & Akh.K. Pandey 2008 ; *Pseudocercospora centrosematicola* (J. M. Yen & Lim) J. M. Yen 1980 ; *Pseudocercospora cephalanthi* Goh & W. H. Hsieh 1990 ; *Pseudocercospora cerastri* Suj. Singh 1979 ; *Pseudocercospora ceratoniae* (Pat. & Trab.) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora cercidis-chinensis* H. D. Shin & U. Braun 2000 ; *Pseudocercospora chamaecristae* U. Braun & F. O. Freire 2003 ; *Pseudocercospora chamaecristigena* A. Hern. Gut. & Dianese 2009 ; *Pseudocercospora chamaesyces* (F. Stevens & Dalbey) Deighton 1987 ; *Pseudocercospora chamissoana* R. F. Castañeda & U. Braun 1989 ; *Pseudocercospora chebulae* B. Sutton 1994 ; *Pseudocercospora chengtuensis* (F. L. Tai) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora chenopodiacearum* U. Braun 2000 ; *Pseudocercospora chenopodii-ambrosioidis* (J. M. Yen) U. Braun & R. F. Castañeda 1989 ; *Pseudocercospora chiangmaiensis* Cheew., K.D. Hyde & Crous 2008 ; *Pseudocercospora chionanthi-retusi* (Togashi & Katsuki) Nishij., C. Nakash. & Tak. Kobay. 1999 ; *Pseudocercospora chionanthi-retusi* Goh & W. H. Hsieh 1990 ; *Pseudocercospora chionanthicola* C. Nakash. & Tak. Kobay. 2002 ; *Pseudocercospora chionea* (Ellis & Everh.) X. J. Liu & Y. L. Guo 1989 ; *Pseudocercospora chirguensis* U. Braun, Crous & N. Pons 2003 ; *Pseudocercospora chloranthi* (Togashi & Katsuki) X. J. Liu & Y. L. Guo 1992 ; *Pseudocercospora chlorophorae* (J. M. Yen & Gilles) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora chlorophoricola* (J. M. Yen & Gilles) Deighton 1979

;*Pseudocercospora chloroxyli* (T. S. Ramakr. & G. S. Reddy) U. Braun, Bagyan. & Jagad. 1992 ;*Pseudocercospora chloroxylcola* Hosag. & R. K. Verma 1992
 ;*Pseudocercospora chorisiae* (Tak. Kobay. & Onuki) U. Braun & Crous 2003
 ;*Pseudocercospora chrysanthemicola* (J. M. Yen) Deighton 1976
 ;*Pseudocercospora chrysobalani* (Ellis & Everh.) U. Braun & Crous 2003
 ;*Pseudocercospora cinchonae* (Ellis & Everh.) U. Braun & Crous 2003
 ;*Pseudocercospora cinchonicola* (Boedijn) U. Braun 2001 ;*Pseudocercospora cinerea* (Pavgi & U. P. Singh) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora cinereae* (Pavgi & U. P. Singh) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora cinnamomi* (Sawada & Katsuki) Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora circumscissa* (Sacc.) Y. L. Guo & X. J. Liu 1989 ;*Pseudocercospora cissi* Bagyan., U. Braun & Jagad. 1992
 ;*Pseudocercospora citri* Crous & U. Braun 2003 ;*Pseudocercospora citri* Y. L. Guo 2001 ;*Pseudocercospora cladophora* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1987
 ;*Pseudocercospora cladosporioides* (Sacc.) U. Braun 1993 ;*Pseudocercospora cladrastidis* (Jacz.) J. K. Bai & M. Y. Cheng 1992 ;*Pseudocercospora clausenae* (Thirum. & Chupp) X. J. Liu & Y. L. Guo 1989 ;*Pseudocercospora clavicarpa* (Ellis & Everh.) U. Braun 1999 ;*Pseudocercospora clematidicola* P. N. Singh, Kharwar & H. S. G. Rao 1997 ;*Pseudocercospora clematidigena* U. Braun & Crous 2005 ;*Pseudocercospora clematoclethrae* X. J. Liu & Y. L. Guo 1992 ;*Pseudocercospora clerodendri* (J. Miyake) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora clerodendrigena* U. Braun 2002 ;*Pseudocercospora clibadiicola* U. Braun & R. Urtiaga 2008
 ;*Pseudocercospora clitoriae* (G. F. Atk.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora clutiicola* Crous & U. Braun 1994 ;*Pseudocercospora cluytiae* (Kalchbr. & Cooke) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora cocculi* (Syd.) Deighton 1976
 ;*Pseudocercospora cocculicola* (W.W. Ray) U. Braun & Crous 2003
 ;*Pseudocercospora cocculicola* S. K. Singh & Bhalla 2000 ;*Pseudocercospora cocculigena* Y. L. Guo 2001 ;*Pseudocercospora cochlospermi* (R.E.D. Baker & W.T. Dale) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora coffeigena* Y. L. Guo & X. J. Liu 1999 ;*Pseudocercospora colebrookiae* H.S.G. Rao, A.S. Moses & P.N. Singh 1996 ;*Pseudocercospora colebrookiae-oppositifoliae* U. Braun 2009
 ;*Pseudocercospora colebrookiicola* P.N. Singh, M.S. Tripathi, A.N. Singh bis & R.K. Chaudhary 1998 ;*Pseudocercospora colebrookiicola* U. Braun 2000
 ;*Pseudocercospora coleosanthi* (Ellis & Everh.) U. Braun & Crous 2003
 ;*Pseudocercospora collinsiae* (U. Braun & Rogerson) U. Braun & Crous 2002
 ;*Pseudocercospora colocasiae* Deighton 1976 ;*Pseudocercospora colombiensis* Crous & M. J. Wingf. 1998 ;*Pseudocercospora columnaris* (Ellis & Everh.) J. M. Yen 1980 ;*Pseudocercospora comandrae* (Ellis & Dearn.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora combretacearum* B. Sutton 1987 ;*Pseudocercospora combretacearum* var. *combretacearum* B. Sutton 1987

;*Pseudocercospora combretacearum* var. *minima* B. Sutton 1994
 ;*Pseudocercospora combreti* A. K. Singh & Kamal 1987 ;*Pseudocercospora combreticola* U. Braun & F. O. Freire 2003 ;*Pseudocercospora combretigena* U. Braun 2001 ;*Pseudocercospora commonsii* (Sacc.) U. Braun & F. O. Freire 2003 ;*Pseudocercospora ;omocladiæ* (Petr. & Cif.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora concentrica* (Cooke & Ellis) U. Braun & Crous 2002 ;*Pseudocercospora conjugans* (F. Stevens & Solheim) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora conocarpi* N. Pons, U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora consociata* (G. Winter) Y. L. Guo & X. J. Liu 1989 ;*Pseudocercospora consociata* var. *dimorpha* U. Braun & R. Urtiaga 2008 ;*Pseudocercospora conspicua* (Earle) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora contraria* (Syd. & P. Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora conyzae* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora coperniciae* U. Braun & F. O. Freire 2003 ;*Pseudocercospora coprosmae* U. Braun & C.F. Hill 2003 ;*Pseudocercospora corchorica* (Petr. & Cif.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora corchorifoliae* (Thirum. & Govindu) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora cordiae* Kamal & R. P. Singh 1980 ;*Pseudocercospora cordiana* Crous & Bench. 2000 ;*Pseudocercospora cordiicola* (J. M. Yen) J. M. Yen 1980 ;*Pseudocercospora cordobensis* (Speg.) Y. L. Guo & X. J. Liu 1992 ;*Pseudocercospora cordylines* U. Braun 1998 ;*Pseudocercospora coriariae* (Chupp) X. J. Liu & Y. L. Guo 1989 ;*Pseudocercospora coriariae* A. N. Shukla & S. N. Mukerji 1992 ;*Pseudocercospora cornicola* (Tracy & Earle) Y. L. Guo & X. J. Liu 1989 ;*Pseudocercospora correae* B. Sutton & Pascoe 1987 ;*Pseudocercospora correicola* B. Sutton & Pascoe 1988 ;*Pseudocercospora corylopsidis* (Togashi & Katsuki) C. Nakash. & Tak. Kobay. 1999 ;*Pseudocercospora cosmicola* (A. K. Kar & M. Mandal) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora costi* (F. Stevens) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora costina* (Syd. & P. Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora cotini* (Katsuki & Ts. Kobay.) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora cotizensis* (A. S. Mull. & Chupp) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora cotoneastri* (Katsuki & Ts. Kobay.) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora couratari* (Chupp) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora crataegi* (Sacc. & C. Massal.) Y. L. Guo & X. J. Liu 1992 ;*Pseudocercospora crossopterygis* Deighton 1983 ;*Pseudocercospora crotalariaiana* (Pavgi & U. P. Singh) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora crotalariicola* (J. M. Yen) J. M. Yen 1978 ;*Pseudocercospora crotonis* (Ellis & Everh.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora crotonophila* (Speg.) Crous, U. Braun & Alfenas 1999 ;*Pseudocercospora crousii* U. Braun & M.A. Dick 2002 ;*Pseudocercospora cruenta* (Sacc.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora cryptolepidis* (Pandotra & Ganguly) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora cryptomeriicola* (Sawada) C. Nakash., Akashi & M. Akiba 2007 ;*Pseudocercospora cryptostegia-madagascariensis* J.L.

Silva, R.W. Barreto & O.L. Pereira 2008 ;*Pseudocercospora cryptostegiae* (W. Yamam.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora crystallina* Crous & M. J. Wingf. 1996 ;*Pseudocercospora cubae* Crous 1998 ;*Pseudocercospora cucurbitina* (Speg.) U. Braun 2000 ;*Pseudocercospora cupaniae* (Syd.) U. Braun & F. O. Freire 2003 ;*Pseudocercospora cupheae* (Syd.) U. Braun 1999 ;*Pseudocercospora curatellae* (Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora curculiginis* Y. L. Guo & X. J. Liu 1992 ;*Pseudocercospora curta* (Syd.) U. Braun & Crous 2002 ;*Pseudocercospora curtisiae* (Chupp & Doidge) Crous & U. Braun 1996 ;*Pseudocercospora cyathae* C. Nakash. & S. Inaba 2006 ;*Pseudocercospora cyatheae* C. Nakash. & S. Inaba 2006 ;*Pseudocercospora cybistacis* (Henn.) X. J. Liu & Y. L. Guo 1989 ;*Pseudocercospora cycleae* (Chidd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora cydoniae* (Ellis & Everh.) Y. L. Guo & X. J. Liu 1992 ;*Pseudocercospora cylindrata* (Chupp & Linder) N. Pons & B. Sutton 1988 ;*Pseudocercospora cylindrosporoides* (Solheim & Chupp) Y. L. Guo & X. J. Liu 1992 ;*Pseudocercospora cymbidiicola* U. Braun & C. F. Hill 2002 ;*Pseudocercospora cymbopogonis* (J. M. Yen) J. M. Yen 1978 ;*Pseudocercospora cynometrae* Deighton 1987 ;*Pseudocercospora cypripedii* (Ellis & Dearn.) U. Braun & Crous 2003

Pseudocercospora d-e

Pseudocercospora daemiae (A. K. Kar & M. Mandal) Deighton 1979 ;*Pseudocercospora dalbergiae* (S. H. Sun) J. M. Yen 1979 ;*Pseudocercospora daphniphylli* (Katsuki & Ts. Kobay.) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora daspurensis* (A. K. Kar & M. Mandal) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora daturae* Chidd. 1957 ;*Pseudocercospora daturina* (J.M. Yen) Deighton 1976 *Pseudocercospora davalliae* (A.K. Kar & M. Mandal) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora davidiicola* C. Nakash., H. Horie & Tak. Kobay. 2008 ;*Pseudocercospora decumariae* (Tracy & Earle) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora deglupta* Crous 1998; *Pseudocercospora deightonii* Minter 1980 ;*Pseudocercospora deinbolliae* Deighton 1976 ;*Pseudocercospora delonicis* (J. M. Yen) J. M. Yen 1980 ;*Pseudocercospora dendrobii* (H.C. Burnett) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora dendrobii* Goh & W. H. Hsieh 1990 ;*Pseudocercospora denticulata* Crous 1998 ;*Pseudocercospora desmodii-salicifolii* Deighton 1987 ;*Pseudocercospora desmodiicola* (B. Rai & Kamal) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora destructiva* (Ravenel) Y. L. Guo & X. J. Liu 1992 ;*Pseudocercospora dianellae* U. Braun & C.F. Hill 2003 ;*Pseudocercospora dichrocephala* (W. Yamam.) Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora diapterae* (A. K. Kar & M. Mandal) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora dictamni* (Fuckel) U. Braun & Crous 2002 ;*Pseudocercospora didymochitonis* (Wakef.) Y. L. Guo 1999 ;*Pseudocercospora didymospora* (Ellis & Barthol.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora diervilleae* (Ellis & Everh.) U.

Braun 1996; *Pseudocercospora diffusa* (Ellis & Everh.) Y. L. Guo & X. J. Liu 1989 ; *Pseudocercospora dilleniae* (Petch) Sarbajna 1989 ; *Pseudocercospora dingleyae* U. Braun & C.F. Hill 2002; *Pseudocercospora dioscoreae* U. Braun, Mouch. & McKenzie 1999 ; *Pseudocercospora diospyri-erianthae* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1987 ; *Pseudocercospora diospyri-lycioides* Crous & U. Braun 1995 ; *Pseudocercospora diospyri-morrisiana* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1987 ; *Pseudocercospora diospyricola* Goh & W. H. Hsieh 1990 ; *Pseudocercospora dipterocarpacearum* U. Braun 2000 ; *Pseudocercospora dissotidis* (Chupp & Doidge) Crous & U. Braun 1996 ; *Pseudocercospora diversispora* Goh & W. H. Hsieh 1989 ; *Pseudocercospora dodonaeae* Boesew. 1981 ; *Pseudocercospora doidgeae* Crous & U. Braun 1996 ; *Pseudocercospora dolichandrones* (Chupp) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora dolichi* (Ellis & Everh.) J. M. Yen 1981 ; *Pseudocercospora doliocarpi* U. Braun & R. F. Castañeda 1991 ; *Pseudocercospora dominicana* (Cif. & Gonz. Frag.) U. Braun 1995; *Pseudocercospora doyalidis* (Chupp & Doidge) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora dracunculi* (Sarwar) Y. L. Guo 1996; *Pseudocercospora duabangae* M. D. Mehrotra & R. K. Verma 1991; *Pseudocercospora durantae* N. Pons, U. Braun & Crous 2003; *Pseudocercospora ebulicola* (W. Yamam.) Deighton 1976; *Pseudocercospora ecbolii* (A. K. Kar & M. Mandal) Deighton 1987; *Pseudocercospora ecdysantherae* (J. M. Yen) J. M. Yen 1981; *Pseudocercospora egenula* (Syd.) U. Braun & Crous 2003; *Pseudocercospora ehretiae* (Togashi & Katsuki) C. Nakash. & Tak. Kobay. 1999; *Pseudocercospora ehretiae-thrysiflorae* Goh & W. H. Hsieh 1989; *Pseudocercospora ekebergiae* (Crous & B. Sutton) U. Braun & Crous 2002; *Pseudocercospora elaeagnicola* (Chidd.) Deighton 1987; *Pseudocercospora elaeocarpi* B. Sutton & Sankaran 1994; *Pseudocercospora elaeocarpicola* Tak. Kobay., Nishij. & C. Nakash. 1998; *Pseudocercospora elaeodendri* (G. P. Agarwal & Hasija) Deighton 1976; *Pseudocercospora elephantopi* (Ellis & Everh.) R. F. Castañeda & U. Braun 1989; *Pseudocercospora elephantopi* Goh & W. H. Hsieh 1990; *Pseudocercospora elephantopodicola* (J.M. Yen & Gilles) U. Braun & F.O. Freire 2006; *Pseudocercospora entebbeensis* (Deighton) Deighton 1976; *Pseudocercospora epigaeae* (Ellis & Dearn.) U. Braun & Crous 2003; *Pseudocercospora epispermogoniana* Crous & M. J. Wingf. 1996; *Pseudocercospora eriobotryae* (Enjoji) Goh & W. H. Hsieh 1987; *Pseudocercospora eriobotryae* (Enjoji) Y. L. Guo & X. J. Liu 1989; *Pseudocercospora eriobotryicola* (J. M. Yen) J. M. Yen 1978; *Pseudocercospora eriodendri* (Racib.) U. Braun 1992; *Pseudocercospora eriothecae* A. Hern. Gut. & Dianese 2009; *Pseudocercospora ervatamiae* (J. M. Yen & Lim) J. M. Yen 1980; *Pseudocercospora erythrinigena* J. M. Yen

1978; *Pseudocercospora erythrogena* (G. F. Atk.) U. Braun
 1999; *Pseudocercospora erythrophlei* Z. Q. Yuan 1996; *Pseudocercospora erythroxyli* (Govindu & Thirum.) U. Braun, Bagyan. & Jagad.
 1992; *Pseudocercospora escalloniae* (Marchion.) U. Braun & C.F. Hill
 2008; *Pseudocercospora eucalypti* (Cooke & Massee) Y. L. Guo & X. J. Liu
 1989; *Pseudocercospora eucalypti* Goh & W. H. Hsieh 1990; *Pseudocercospora eucalypticola* S. K. Singh & Bhalla 2000; *Pseudocercospora eucalyptigena* U. Braun 2001; *Pseudocercospora eucalyptorum* Crous, M. J. Wingf. & Marasas 1989; *Pseudocercospora eucalyptorum* Crous, M. J. Wingf., Marasas & B. Sutton 1989; *Pseudocercospora eucleae* Crous & B. Sutton 1997; *Pseudocercospora eucommiae* Y. L. Guo & X. J. Liu 1987; *Pseudocercospora eugeniicola* U. Braun, J. C. David & F. O. Freire 1999; *Pseudocercospora eumusae* Crous & Mour. 2002; *Pseudocercospora euodiae* (Syd. & P. Syd.) Chupp 1954; *Pseudocercospora euodiicola* (Boedijn) P.K. Chi 1994; *Pseudocercospora euodiicola* (Boedijn) U. Braun 2001; *Pseudocercospora eupatoriella* Crous & Den Breeyen 2006; *Pseudocercospora eupatorii* (Peck) U. Braun & R. F. Castañeda 1991; *Pseudocercospora eupatoriiformosanae* (Sawada) J.M. Yen 1980; *Pseudocercospora eupatoriiformosanae* J. M. Yen ex Y. L. Guo & W. H. Hsieh 1995; *Pseudocercospora eupatoriiformosanae* U. Braun & Bagyan. 1999; *Pseudocercospora eupatoriicola* (Govindu & Thirum.) A. Z. M. Khan & Shamsi 1983; *Pseudocercospora euphorbiacearum* U. Braun 2003; *Pseudocercospora euphorbiae-piluliferae* J. M. Yen, A. K. Kar & B. K. Das 1982; *Pseudocercospora euphorbiae-pubescentis* (Unamuno) U. Braun & Crous 2003; *Pseudocercospora euphorbiicola* (G.F. Atk.) U. Braun & Crous 2003; *Pseudocercospora euryae* Y. L. Guo 1999; *Pseudocercospora eustomatis* (Peck) U. Braun 1999; *Pseudocercospora evolvuli* (Chupp) U. Braun & Crous 2003; *Pseudocercospora exilis* A. Hern. Gut. & Dianese 2009; *Pseudocercospora exochordae* (Chupp & J.A. Stev.) Deighton 1987; *Pseudocercospora exochordiae* (Chupp & J. A. Stev.) Deighton 1987.; *Pseudocercospora exosporioides* (Bubák) B. Sutton & Hodges 1990

Pseudocercospora f-g

Pseudocercospora fagarae (W. Yamam.) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora fagaricola* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1990 ; *Pseudocercospora fasciculata* (Speg.) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora fatouae* Goh & W. H. Hsieh 1990 ; *Pseudocercospora feigeana* U. Braun 2003 ; *Pseudocercospora feijoae* El-Gholl & T. S. Schub. 1989 ; *Pseudocercospora fengshanensis* (T. Y. Lin & J. M. Yen) J. M. Yen & S. K. Sun 1983 ; *Pseudocercospora fici* (Heald & F. A. Wolf) X. J. Liu & Y. L. Guo 1991 ; *Pseudocercospora fici-caricae* (Sawada) Goh & W. H. Hsieh 1990 ; *Pseudocercospora fici-chartaceae* (J. M. Yen & Lim) J. M. Yen 1980 ; *Pseudocercospora fici-religiosae* (Chidd.) U. Braun, Bagyan. & Jagad.

1992; *Pseudocercospora fici-septicae* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1987
 ;*Pseudocercospora fici-sycamori* Crous & U. Braun 1996 ;*Pseudocercospora ficicola* H. S. G. Rao, S. Chandra & Kamal 1995 ;*Pseudocercospora ficigena* U. Braun 2000 ;*Pseudocercospora ficina* U. Braun 2003 ;*Pseudocercospora fijiensis* (M. Morelet) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora filiformis* (Davis) J. K. Bai & M. Y. Cheng 1992 ;*Pseudocercospora filipendulae-ulmariae* U. Braun & C.F. Hill 2004 ;*Pseudocercospora flacourtiicola* U. Braun & Kamal 2003; *Pseudocercospora flagellariae* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora flavomarginata* G.C. Hunter, Crous & M.J. Wingf. 2006 ;*Pseudocercospora flemingiae* (S.M. Singh) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora flemingiae-macrophyllae* U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora forestierae* (E. West) U. Braun & Crous 2005; *Pseudocercospora fori* (G.C. Hunter, Crous & M.J. Wingf.) G.C. Hunter, Crous & M.J. Wingf. 2009 ;*Pseudocercospora formosana* (W. Yamam.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora forrestiae* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora forsythiae* (Katsuki & Ts. Kobay.) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora franserae* (Ellis & Everh.) U. Braun 1993; *Pseudocercospora fraserae* (Ellis & Everh.) U. Braun 1993 ;*Pseudocercospora fraxinites* (Ellis & Everh.) Y. L. Guo & X. J. Liu 1992 ;*Pseudocercospora froelichiae* U. Braun & F.O. Freire 2004 ;*Pseudocercospora fudinga* T. Z. Huang & Ze Yu Chen 1989 ;*Pseudocercospora fukuii* (W. Yamam.) Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora fukuokaensis* (Chupp) X. J. Liu & Y. L. Guo 1992 ;*Pseudocercospora fuligena* (Roldan) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora fuliginosa* (Ellis & Kellerm.) W. X. Zhao & Y. L. Guo 1993 ;*Pseudocercospora fumosa* (Speg.) U. Braun 2000 ;*Pseudocercospora fuscovirens* (Sacc.) Y. L. Guo & X. J. Liu 1992; *Pseudocercospora gangetici* (Bharadwaj) U. Braun 1999 ;*Pseudocercospora gardeniae* (Boedijn) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora garhwaleensis* S. L. Srivast. & Topal 1985 ;*Pseudocercospora carryae* (Harkn.) U. Braun & Crous 2005 ;*Pseudocercospora gaultheriae* (Ellis & Everh.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora gaurae* (Kellerm. & Swingle) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora gei* (Fuckel) Y. L. Guo & X. J. Liu 1987; *Pseudocercospora geicola* U. Braun 1991 ;*Pseudocercospora gelsemiicola* U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora genipicola* U. Braun & F. O. Freire 2003 ;*Pseudocercospora gentianacearum* H. S. Rao, A. S. Moses & P. N. Singh 1996 ;*Pseudocercospora gentianicola* (Ellis & Everh.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora geraniacearum* U. Braun & Rogerson 1993 ;*Pseudocercospora geranii* (W. B. Cooke & C. G. Shaw) U. Braun 1991 ;*Pseudocercospora geraniicola* U. Braun 1993 ;*Pseudocercospora ghanensis* Deighton 1976 ;*Pseudocercospora ghissambilae* U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora giranensis* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1987

;Pseudocercospora glauca (Syd.) Y.L. Guo & X.J. Liu 1992 ;*Pseudocercospora glaucescens* (G. Winter) U. Braun 1999 ;*Pseudocercospora globosae* (J. M. Yen) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora glochidionis* (Sawada) Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora glomerata* (Harkn.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora glycines* (Cooke) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora glycosmidis* (M. Mandal) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora gmelinae* (J. M. Yen & Gilles) J. M. Yen 1979 ;*Pseudocercospora gomphrenae* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1989 ;*Pseudocercospora gomphrenae-pulchellae* U. Braun, Delhey & Kiehr 2001; *Pseudocercospora gomphrenicola* Chidd. 1957 ;*Pseudocercospora gorakhpurensis* H. S. G. Rao, S. Chandra & Kamal 1995 ;*Pseudocercospora gotoana* (Togashi) Deighton 1987; *Pseudocercospora gracilenta* (Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora gracilis* Crous & Alfenas 1995 ;*Pseudocercospora graphioides* (Ellis ex Chupp) U. Braun 2003; *Pseudocercospora greenei* Deighton 1976 ;*Pseudocercospora grewiae* (H. C. Srivast. & P. R. Mehta) X. J. Liu & Y. L. Guo 1989 ;*Pseudocercospora grewiicola* (Govindu & Thirum.) Bagyan., U. Braun & Jagad. 1995 ;*Pseudocercospora grewiigena* Y. L. Guo 1995; *Pseudocercospora grindeliae* U. Braun, Delhey & Kiehr 2001 ;*Pseudocercospora grisea* (Cooke & Ellis) U. Braun 1999 ;*Pseudocercospora griseola* (Sacc.) Crous & U. Braun 2006 ;*Pseudocercospora griseola* f. *griseola* (Sacc.) Crous & U. Braun 2006; *Pseudocercospora griseola* f. *mesoamericana* Crous & U. Braun 2006 ;*Pseudocercospora grossulariacearum* U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora guanicensis* (E. Young) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora guaranitica* (Speg.) U. Braun 2000; *Pseudocercospora guazumae* (Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora guettardae* (Chupp) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora guianensis* (F. Stevens & Solheim) Deighton 1976; *Pseudocercospora gunnerae* U. Braun & C.F. Hill 2006 ;*Pseudocercospora guttulata* (Ellis & Kellerm.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora gymnanthis* (Chupp) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora gymnematis* Kamal & R. P. Singh 1980 ;*Pseudocercospora gymnematis* P. Kumar & Kamal 1979 ;*Pseudocercospora gymnophetali* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora gymnosporiae* R. K. Dubey, Firdousi, A. N. Rai & K. M. Vyas 1990 ;*Pseudocercospora gyrocarpi* (Karan & J. L. Mulder) U. Braun 1994.....

Pseudocercospora h-k

Pseudocercospora hachijokibushi C. Nakash., H. Horie & Tak. Kobay. 2004 ;*Pseudocercospora halidiariensis* (A. K. Kar & M. Mandal) U. Braun 2001 ;*Pseudocercospora halleriae* (Chupp & Doidge) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora haloragis* (Hansf.) U. Braun 1995 ;*Pseudocercospora hameliae* (Chupp) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora handelii* (Bubák) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora hangzhouensis* X. J. Liu & Y. L. Guo 1987 ;*Pseudocercospora hansfordii* (Chupp) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora*

haplophragmatis (Kamal & R. P. Singh) U. Braun 2000 ;*Pseudocercospora hardwarensis* (Naras.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora harunganae* Deighton 1987 ;*Pseudocercospora hebeicola* U. Braun & C.F. Hill 2004 ;*Pseudocercospora hedychii* (Boedijn) U. Braun 2001 ;*Pseudocercospora hedyosmi* (Petr.) U. Braun 1995 ;*Pseudocercospora hedyotidis* (Suj. Singh) B. Sutton 1994 ;*Pseudocercospora heimii* Crous 1995 ;*Pseudocercospora heimioides* Crous & M. J. Wingf. 1997 ;*Pseudocercospora heliotropii* U. Braun & F. O. Freire 2003 ;*Pseudocercospora helleri* (Earle) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora helminthostachydis* (Henn.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora hemidesmi* (A. K. Kar & M. Mandal) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora hemidiodiae* (Toro) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora herpestica* (Petr. & Cif.) U. Braun 2001 ;*Pseudocercospora heteromalla* (Syd.) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora heteromelis* (Harkn.) U. Braun & Crous 2002 ;*Pseudocercospora heterospermi* Budathoki & S. K. Singh 1995 ;*Pseudocercospora heveae* (Vincens) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora hibertiae-asperae* Beilharz & Cunningt. 2003 ;*Pseudocercospora hibisci* (Tracy & Earle) Deighton ;*Pseudocercospora hibisci-cannabini* (Sawada) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora hibisci-mutabilis* (S. H. Sun) J. M. Yen 1981 ;*Pseudocercospora hibiscigena* P. N. Singh, S. K. Singh & S. C. Tripathi 1996 ;*Pseudocercospora hibiscina* (Ellis & Everh.) Y. L. Guo & X. J. Liu 1989 ;*Pseudocercospora hieracii* (Ellis & Everh.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora hieronymae* (Chupp) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora himalayana* Budathoki & S. K. Singh 1995 ;*Pseudocercospora hiptages* (Petch) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora hiratsukana* (Togashi & Katsuki) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora hirtellae* U. Braun, J. C. David & F. O. Freire 1999 ;*Pseudocercospora holarrhenae* (Thirum. & Chupp) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora holmskioldiae* C. Nakash. & Meeboon 2007 ;*Pseudocercospora holopteleae* (Chidd.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora homalanthi* Deighton 1987 ;*Pseudocercospora hopetounensis* Beilharz & Pascoe 2002 ;*Pseudocercospora horii* C. Nakash. & Tak. Kobay. 2002 ;*Pseudocercospora houstoniae* (Ellis & Everh.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora houttuyniae* (Togashi & Katsuki) Y. L. Guo & W. X. Zhao 1989 ;*Pseudocercospora hoveae* (Syd. & P. Syd.) K. Schub. & U. Braun 2005 ;*Pseudocercospora humuli* (Hori) Y. L. Guo & X. J. Liu 1987 ;*Pseudocercospora humuli-japonici* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1990 ;*Pseudocercospora hurae* (F. Stevens) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora hyaloconidiophora* Goh & W. H. Hsieh 1989 ;*Pseudocercospora hybanthi* U. Braun & F.O. Freire 2004 ;*Pseudocercospora hydrangeae-angustipetalae* Goh & W. H. Hsieh 1989 ;*Pseudocercospora hymenaeae* R. Kirschner & U. Braun 2006 ;*Pseudocercospora hymenocardiae* Deighton 1987 ;*Pseudocercospora hymenodictyi* (Petr.) Y.L. Guo

& X.J. Liu 1992 ;*Pseudocercospora hypsophila* (Syd.) U. Braun & F. O. Freire 2003 ;*Pseudocercospora ichnocarpi* (A. K. Kar & M. Mandal) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora ichthyomethiae* (Dearn. & Barthol.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora ilicis* (Ellis) U. Braun 2003 ;*Pseudocercospora ilicis-micrococcae* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora imazekii* Tak. Kobay. & Nagash. 1991; *Pseudocercospora indica* D. Gupta, Padhi & Chowdhry 1982; *Pseudocercospora indica* Deighton 1987; *Pseudocercospora indonesiana* Arzanlou & Crous 2008; *Pseudocercospora infuscans* (Ellis & Everh.) U. Braun 1998; *Pseudocercospora insueta* (Petr.) Deighton 1976; *Pseudocercospora insularis* Alcorn 1978; *Pseudocercospora inulae* Y. L. Guo & Y. Jiang 2000; *Pseudocercospora ipomoeae-purpureae* (J. M. Yen) J. M. Yen 1980; *Pseudocercospora irregulariramosa* Crous & M. J. Wingf. 1997; *Pseudocercospora irregularis* Crous 1998; *Pseudocercospora isorae* R.K. Verma & N. Sharma 2008; *Pseudocercospora italicica* (Curzi) Deighton 1976; *Pseudocercospora iteae* (Sawada & Katsuki) Goh & W. H. Hsieh 1987; *Pseudocercospora ixorae* (Solheim) Deighton 1976; *Pseudocercospora ixorana* (J.M. Yen & Lim) U. Braun & Crous 2003; *Pseudocercospora ixoricola* (J. M. Yen) J. M. Yen 1980; *Pseudocercospora izuohshimensis* C. Nakash., H. Horie & Tak. Kobay. 2004; *Pseudocercospora jacquemontiae* U. Braun & F.O. Freire 2004; *Pseudocercospora jahnii* (Syd.) U. Braun & Crous 2003; *Pseudocercospora jamaicensis* (Chupp) Deighton 1976; *Pseudocercospora jasminicola* A. S. Mull. & Chupp ex Deighton 1976; *Pseudocercospora jasminicola* var. *effusa* U. Braun & Sivap. 1999; *Pseudocercospora jasminicola* var. *jasminicola* A.S. Mull. & Chupp ex Deighton 1976; *Pseudocercospora jatrophae* (G. F. Atk.) A. K. Das & Chattopadh. 1990; *Pseudocercospora jatrophae-curcas* (J.M. Yen) Deighton 1976; *Pseudocercospora jatropharum* (Speg.) U. Braun 2000; *Pseudocercospora javanica* Deighton 1983; *Pseudocercospora juglandicola* Y. L. Guo 1999; *Pseudocercospora juglandis* (Kellerm. & Swingle) U. Braun & Crous 2003; *Pseudocercospora jujubae* (S. Chowdhury) A. Z. M. Khan & Shamsi 1983; *Pseudocercospora juniperi* (Ellis & Everh.) B. Sutton & Hodges 1990; *Pseudocercospora jussiaeae* (G. F. Atk.) Deighton 1976; *Pseudocercospora jussiaeae-repentis* (Sawada) Goh & W. H. Hsieh 1987; *Pseudocercospora justiciae* (F. L. Tai) Y. L. Guo & X. J. Liu 1991; *Pseudocercospora justiciicola* P. N. Singh, S. K. Singh & S. C. Tripathi 1996; *Pseudocercospora kadsurae* (Togashi & Katsuki) Y. L. Guo & X. J. Liu ;992; *Pseudocercospora kaiseri* M. D. Mehrotra 1991; *Pseudocercospora kaki* Goh & W. H. Hsieh 1990; *Pseudocercospora kallarensis* (T. S. Ramakr. & K. Ramakr.) Y. L. Guo & X. J. Liu 1992; *Pseudocercospora kalmiae* (Ellis & Everh.) U. Braun 1996; *Pseudocercospora karaka* (G. F. Laundon) Deighton 1976; *Pseudocercospora kashotoensis* (W. Yamam.) Deighton

1976; *Pseudocercospora katongensis* (J. M. Yen) J. M. Yen
 1980; *Pseudocercospora kenemensis* Deighton 1976; *Pseudocercospora kennediae* (Cooke & Massee) U. Braun 1996; *Pseudocercospora kennediicola* Beilharz, Pascoe & Parbery 2002; *Pseudocercospora khasiana* B. K. Gupta & Kamal 1987; *Pseudocercospora kiagweensis* Deighton 1976; *Pseudocercospora kigeziensis* (Ebbels & Deighton) Deighton 1976; *Pseudocercospora kiggelariae* (Syd.) Crous & U. Braun 1994; *Pseudocercospora kirganeliae* (Thirum. & Govindu) Deighton 1976; *Pseudocercospora kirishimensis* (Naito) C. Nakash. & Tak. Kobay. 2000; *Pseudocercospora kleinhoviae* (Höhn.) Deighton 1976; *Pseudocercospora kolanensis* S. K. Singh & Bhalla 2000; *Pseudocercospora krameriae* U. Braun, J. C. David & F. O. Freire 1999; *Pseudocercospora kurimensis* (Fukui) U. Braun 1996; *Pseudocercospora kydiae* A. K. Singh & Kamal 1987.....

Pseudocercospora l-m

Pseudocercospora laburni (W. W. Ray) Deighton 1987 ; *Pseudocercospora lagerstroemiae-lanceolatae* U. Braun & Crous 2003 ; *Pseudocercospora lagerstroemiae-parviflorae* H. S. G. Rao, S. Narayan & Bhartiya 1996 ; *Pseudocercospora lagerstroemiae-subcostatae* (Sawada) Goh & W. H. Hsieh 1990 ; *Pseudocercospora lagerstroemiigena* Goh & W. H. Hsieh 1990 ; *Pseudocercospora lamiacearum* H. S. G. Rao, A. S. Moses & S. Narayan 1996 ; *Pseudocercospora lantanae-aculeatae* (J. M. Yen) J. M. Yen 1980 ; *Pseudocercospora latens* (Ellis & Everh.) U. Braun 1997 ; *Pseudocercospora latens* (Ellis & Everh.) Y. L. Guo & X. J. Liu 1989 ; *Pseudocercospora lathyri* (Dearn. & House) Y. L. Guo & X. J. Liu 1992 ; *Pseudocercospora launaeae* (K.L. Kothari, M.K. Bhatn. & G.C. Bhatt) U. Braun & Crous 2003 ; *Pseudocercospora lauracearum* H. S. G. Rao, A. S. Moses & S. Narayan 1996 ; *Pseudocercospora laxipes* U. Braun & Crous 2003 ; *Pseudocercospora leandrae* (Syd.) U. Braun 1999 ; *Pseudocercospora lecheae* (Chupp & H.C. Greene) U. Braun & Crous 2003 ; *Pseudocercospora leeae-macrophyllae* (A. K. Kar & M. Mandal) Sarbajna 1989 ; *Pseudocercospora leguminum* (Chupp & Linder) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora leonensis* (Deighton) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora lepidagathidis* U. Braun & Crous 2005 ; *Pseudocercospora lespedezicola* Goh & W. H. Hsieh 1990 ; *Pseudocercospora leucadis* (Uppal, Patel & V. P. Bhide) U. Braun 1992 ; *Pseudocercospora leucaenicola* Raghu Ram & Mallaiah 1993 ; *Pseudocercospora leucothoës* (B.H. Davis) Deighton 1987 ; *Pseudocercospora libertiae* U. Braun & C.F. Hill 2003 ; *Pseudocercospora licaniae* U. Braun & R. Urriaga 2008 ; *Pseudocercospora lichenum* (Keissl.) D. Hawksw. 1979 ; *Pseudocercospora liebenbergii* (Syd.) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora ligustri* Deighton 1976 ; *Pseudocercospora lilacis* (Desm.) Deighton 1987

Pseudocercospora linariae (Chidd.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora lindenbergiae* P.N. Singh, M.S. Tripathi, A.N. Singh bis & R.K. Chaudhary 1998 ;*Pseudocercospora lindericola* (W. Yamam.) Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora lini* (Ellis & Everh.) U. Braun 1997 ;*Pseudocercospora linnaeae* U. Braun & Melnik 1995 ;*Pseudocercospora lippiae* (Ellis & Everh.) A. K. Das & Chattopadh. 1990 ;*Pseudocercospora lippiae-albae* U. Braun & R. F. Castañeda 1989 ;*Pseudocercospora liquidambaricola* (J. M. Yen) U. Braun 2000 ;*Pseudocercospora liquidambaris* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1990 ;*Pseudocercospora litseae* (A. N. Rai, B. Rai & Kamal) U. Braun 1995 ;*Pseudocercospora litseae-cubeba* Y. L. Guo 1991 ;*Pseudocercospora litsecola* (Boedijn) Y. L. Guo & X. J. Liu 1992 ;*Pseudocercospora litseigena* U. Braun 2000 ;*Pseudocercospora lonchitidis* (Chupp) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora lonchocarpi* (J. A. Stev.) Crous & M. P. S. Câmara 1998 ;*Pseudocercospora longispora* Arzanlou & Crous 2008 ;*Pseudocercospora lonicerae* (Chupp) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora lonicerae* Y. L. Guo 1995 ;*Pseudocercospora lonicericola* (W. Yamam.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora lonicerigena* U. Braun & Crous 2007 ;*Pseudocercospora luculiae* (M. K. Khan, Budathoki & Kamal) D. E. Shaw & Alcorn 1993 ;*Pseudocercospora lueheae* U. Braun & F.O. Freire 2006 ;*Pseudocercospora luetzelburgiae* U. Braun & F. O. Freire 2003 ;*Pseudocercospora lupini* (Cooke) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora luxurians* (A. K. Kar & M. Mandal) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora luzzardii* Furlan. & Dianese 1999 ;*Pseudocercospora luzianiensis* A. Hern. Gut. & Dianese 2009 ;*Pseudocercospora lyciicola* (J. M. Yen) J. M. Yen 1980 ;*Pseudocercospora lycopodis* (Ellis & Everh.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora lygodii* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora lyoniae* (Katsuki & Ts. Kobay.) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora lysimachiae* (Ellis & Halst.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora lythracearum* (Heald & F. A. Wolf) X. J. Liu & Y. L. Guo 1992 ;*Pseudocercospora lythri* H. D. Shin & U. Braun 2000 ;*Pseudocercospora macadamiae* Beilharz, Mayers & Pascoe 2003 ;*Pseudocercospora macarangae* (Syd. & P. Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora macarangicola* Deighton 1976 ;*Pseudocercospora macclatchieana* (Sacc. & Syd.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora machili* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora macleayae* Y.L. Guo & X.J. Liu 1992 ;*Pseudocercospora maclurae* (Thüm.) Morgan-Jones & R. A. Phelps 1996 ;*Pseudocercospora macrospora* (Bat. & Peres) Crous & Bench. 2000 ;*Pseudocercospora macutensis* (Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora madagascariensis* Crous & M.J. Wingf. 2009 ;*Pseudocercospora madhauliensis* Kamal, A. N. Rai & A. S. Moses 1991 ;*Pseudocercospora maesae* (Hansf.) X. J. Liu & Y. L. Guo 1992 ;*Pseudocercospora maianthemi* R. Kirschner 2008 ;*Pseudocercospora mali* (Ellis & Everh.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora*

malloti (Kharwar, P.N. Singh & R.K. Chaudhary) U. Braun 2009 ;*Pseudocercospora malloti-repandi* (Bhalla, S. K. Singh & A. K. Srivast.) U. Braun 2000 ;*Pseudocercospora mallotica* Goh & W. H. Hsieh 1990 ;*Pseudocercospora malvastricola* P.N. Singh, M.S. Tripathi, A.N. Singh bis & R.K. Chaudhary 1998 ;*Pseudocercospora malvaviscina* P.N. Singh, M.S. Tripathi, A.N. Singh bis & R.K. Chaudhary 1998 ;*Pseudocercospora mamaonis* (Viégas & Chupp) Tak. Kobay. & Tokash. 1995 ;*Pseudocercospora mangifericola* R.G. Shivas, A.J. Young & Grice 2009 ;*Pseudocercospora manilkarae* Kamal, M. K. Khan & R. K. Verma 1990 ;*Pseudocercospora mannanorensis* Bagyan., U. Braun & Jagad. 1995 ;*Pseudocercospora manuensis* Matsush. 1993 ;*Pseudocercospora maracasensis* (R. E. D. Baker & W. T. Dale) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora marasasii* Crous & M. J. Wingf. 1991 ;*Pseudocercospora marcelliana* (Chupp) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora marsdeniae* (Hansf.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora marsdeniicola* (A. K. Kar & M. Mandal) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora marsdenigena* U. Braun & F.O. Freire 2006 ;*Pseudocercospora mate* (Speg.) Y. L. Guo & W. X. Zhao 1989 ;*Pseudocercospora medicaginicola* (Pavgi & U. P. Singh) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora megalopotamica* (Speg.) U. Braun 2000 ;*Pseudocercospora meibomiae* (Chupp) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora melaena* (Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora melanolepidis* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora melanotes* (Syd.) U. Braun 1999 ;*Pseudocercospora melastomobia* (W. Yamam.) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora melastomobia* (W. Yamam.) Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora meliae* A. N. Rai & Kamal 1982 ;*Pseudocercospora melicyti* U. Braun & C.F. Hill 2004 ;*Pseudocercospora meliicola* J. M. Yen, A. K. Kar & B. K. Das 1982 ;*Pseudocercospora melochiae* (Henn.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora melochiicola* (Syd.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora melochiigena* H. S. G. Rao, Arch. Singh & Kamal 1998 ;*Pseudocercospora melothriae* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora membranaceae* H. S. G. Rao & S. Narayan 1999 ;*Pseudocercospora menispermacearum* P. Kumar & Kamal 1981 ;*Pseudocercospora metrosideri* U. Braun 2001 ;*Pseudocercospora meynae-laxiflorae* Kamal, C. Gupta & A. N. Rai 1986 ;*Pseudocercospora micheliae* (Boedijn) U. Braun 2001 ;*Pseudocercospora micheliicola* J. M. Yen, A. K. Kar & B. K. Das 1982 ;*Pseudocercospora miconiae* (Gonz. Frag. & Cif.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora miconiicola* (Chupp) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora miconiigena* U. Braun & R. Urtiaga 2008 ;*Pseudocercospora micranthae* (A. S. Mull. & Chupp) Crous, Alfenas & R. W. Barreto 1997 ;*Pseudocercospora microphora* (Seshadri) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora midnapurensis* (A. K. Kar & M. Mandal) Deighton 1979 ;*Pseudocercospora mikaniigena* J.M. Yen & Lim 1984 ;*Pseudocercospora*

millettiae Goh & W. H. Hsieh 1989 ;*Pseudocercospora millettiicola* Y. L. Guo 1991 ;*Pseudocercospora millingtoniae* Raghu Ram & Mallaiah 1996 ;*Pseudocercospora mimosae* (Pat.) U. Braun 1993 ;*Pseudocercospora mimosigena* U. Braun & F. O. Freire 2003 ;*Pseudocercospora minuta* (Davis) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora minuta* S. R. Chowdhury & Chandel 1986 ;*Pseudocercospora mirandensis* (Chupp) R. F. Castañeda & U. Braun 1991 ;*Pseudocercospora miscanthi* Katsuki 1956 ;*Pseudocercospora mississippiensis* (Tracy & Earle) R. F. Castañeda & U. Braun 1989 ;*Pseudocercospora mitracarpicola* (J.M. Yen & Gilles) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora mitragynae* (Pavgi, U. P. Singh & Deighton) U. Braun 1995 ;*Pseudocercospora mitteriana* Goh & W. H. Hsieh 1990 ;*Pseudocercospora modesta* (Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora moelleriana* (G. Winter) U. Braun 1997 ;*Pseudocercospora moghaniae* (Suj. Singh) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora mogiphanes* (Speg.) U. Braun 1994 ;*Pseudocercospora mombin* (Petr. & Cif.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora mombin* var. *venezuelensis* U. Braun & R. Urtiaga 2008 ;*Pseudocercospora monochaeticola* (Chupp) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora monoicae* (Ellis & Holw.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora montantiana* M. D. Mehrotra 1987 ;*Pseudocercospora monrichardiae* (Henn.) U. Braun & F. O. Freire 2003 ;*Pseudocercospora moracearum* R. K. Verma & Kamal 1992 ;*Pseudocercospora mori* (Hara) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora moricola* H. S. G. Rao, S. Narayan & Poonam Srivast. 1997 ;*Pseudocercospora morindae* (Syd.) Sarbajna 1989 ;*Pseudocercospora morindicola* (Jenkins & Chupp) U. Braun & McKenzie 1999 ;*Pseudocercospora morongiae* (Tracy & Earle) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora mucunae-ferruginea* (W. Yamam.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora mucunicola* (Cif. & Gonz. Frag.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora mulderi* (Tyagi) U. Braun 1995 ;*Pseudocercospora mulleri* Deighton 1976 ;*Pseudocercospora mungo* Deighton 1979 ;*Pseudocercospora muntingiae* (Petr. & Cif.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora muntingiicola* (J. M. Yen) J. M. Yen 1978 ;*Pseudocercospora murrayae* (A. K. Kar & M. Mandal) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora murrayicola* P. Kumar & Kamal 1981 ;*Pseudocercospora musae* (Zimm.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora musae-sapientium* (A. K. Kar & M. Mandal) U. Braun & Mouch. 1999 ;*Pseudocercospora musicola* U. Braun 1999 ;*Pseudocercospora mussaenda* Katsuki 1956 ;*Pseudocercospora mycetiae* Y. L. Guo 2001 ;*Pseudocercospora myriactidis* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora myricacearum* M. K. Khan, Budathoki & Kamal 1991 ;*Pseudocercospora myrtacearum* (A. N. Rai, B. Rai & Kamal) U. Braun 1995 ;*Pseudocercospora myrtacearum* var. *myrtacearum* (A.N. Rai, B. Rai & Kamal) U. Braun 1995 ;*Pseudocercospora myrtacearum* var. *robusta* U. Braun 2001

; *Pseudocercospora myrticola* ; *Pseudocercospora myrticola* (Speg.) Deighton 1976
; *Pseudocercospora mysorensis* (Thirum. & Chupp) Deighton 1976
; *Pseudocercospora mytilariae* Y.L. Guo 2001.....

Pseudocercospora n-p

Pseudocercospora naitoi (Togashi) C. Nakash. & Tak. Kobay. 1999 ;
Pseudocercospora namae (Dearn. & House) U. Braun & Crous 2003 ;
Pseudocercospora nandinae (Nagat.) X. J. Liu & Y. L. Guo 1992 ;
Pseudocercospora naraveliae (A. K. Kar & M. Mandal) Deighton 1987 ;
Pseudocercospora natalensis Crous & T. A. Cout. 1998 ; *Pseudocercospora neobalsaminae* C.D. Sharma, Gadp., A.N. Rai & K.M. Vyas 1996 ;
Pseudocercospora neoboutoniae (Hansf.) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora neodeightonii* B. Sutton 1994 ; *Pseudocercospora neoliqidambaris* C. Nakash. & Tak. Kobay. 2002 ; *Pseudocercospora neophrymae* C. Nakash. & Tak. Kobay. 2002 ; *Pseudocercospora nephelii* B. Sutton & Peregrine 1990 ; *Pseudocercospora nepheloides* (Ellis & Holw. ex Heald & F.A. Wolf) U. Braun, D.F. Farr & Minnis 2009 ; *Pseudocercospora nephrolepidis* R. Kirschner 2007 ; *Pseudocercospora neriella* (Sacc.) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora nerii* H. S. G. Rao, S. Narayan & Bhartiya 1996 ; *Pseudocercospora nesaeae* (Ellis & Everh.) U. Braun 1999 ;
Pseudocercospora newtonensis (Deighton) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora nicolaiae* (Boedijn) U. Braun 2001 ; *Pseudocercospora nicotianaebenthamiana* Goh & W. H. Hsieh 1990 ; *Pseudocercospora nigricans* (Cooke) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora njalaensis* Deighton 1987 ; *Pseudocercospora nogalesii* (Urries) U. Braun & M.A. Dick 2003 ; *Pseudocercospora nojimae* (Togashi & Katsuki) Y. L. Guo & X. J. Liu 1992 ; *Pseudocercospora norchiensis* Crous 2007 ; *Pseudocercospora nothopogiae* (T. S. Ramakr., Sriniv. & Sundaram) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora noveboracensis* Goh & W. H. Hsieh 1990 ; *Pseudocercospora nyctanthis* (A. K. Roy) U. Braun, Bagyan. & Jagad. 1992 ; *Pseudocercospora nymphaeacea* (Cooke & Ellis) Deighton 1987 ; *Pseudocercospora oblecta* (Syd.) Crous & U. Braun 2008 ; *Pseudocercospora obtegens* (Syd. & P. Syd.) U. Braun & Crous 2003 ; *Pseudocercospora ocellata* (Deighton) Deighton 1987 ; *Pseudocercospora ocimicola* (Petr. & Cif.) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora oculata* (Ellis & Kellerm.) U. Braun & Crous 2003 ; *Pseudocercospora odinae* Sarbajna 1990 ; *Pseudocercospora odontoglossi* (Prill. & Delacr.) U. Braun 2002 ; *Pseudocercospora odontonematis* (Chupp) U. Braun & Crous 2003 ; *Pseudocercospora oenotherae* (Ellis & Everh.) Y. L. Guo & X. J. Liu 1992 ; *Pseudocercospora oenotherae-speciosae* U. Braun & Crous 2003 ; *Pseudocercospora ogawae* (Katsuki & Ts. Kobay.) Deighton 1987 ; *Pseudocercospora olacicola* (Muthappa) Kamal, M. K. Khan & R. K. Verma 1990 ; *Pseudocercospora oleariae* U. Braun & M.A. Dick 2003 ; *Pseudocercospora oliniae* (Verwoerd & Dippen.) Crous & U. Braun 1996

Pseudocercospora omphacodes (Ellis & Holw.) U. Braun & Rogerson 1993
Pseudocercospora operculinae H. S. G. Rao, Arch. Singh & Kamal 1998
Pseudocercospora opuli (Höhn.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora opuntiae* Ayala-Escobar, U. Braun & Crous 2006 ;*Pseudocercospora ormosiae* Y. L. Guo & Y. R. Lin 1995 ;*Pseudocercospora orogeniae* (W.B. Cooke & C.G. Shaw) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora oroxyli* (A. K. Kar & M. Mandal) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora oroxyligena* J. M. Yen, A. K. Kar & B. K. Das 1982 ;*Pseudocercospora osbeckiae* (Chona, Lall & Munjal) Kamal, M. K. Khan & R. K. Verma 1990 ;*Pseudocercospora osmanthi-asiatici* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora osmanthicola* (P. K. Chi & C. K. Pai) X. J. Liu & Y. L. Guo 1991 ;*Pseudocercospora oxalidis* Goh & W. H. Hsieh 1898 ;*Pseudocercospora oxybaphi* (Ellis & Halst.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora oxydendri* (Tracy & Earle) U. Braun 1999 ;*Pseudocercospora oxysporae* (A. K. Kar & M. Mandal) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora oxystelmatis* (S. A. Khan & M. Kamal) Kamal, A. N. Rai & A. S. Moses 1991 ;*Pseudocercospora oyedaeae* (Syd.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora pachirae* U. Braun, Crous & N. Pons 2003 ;*Pseudocercospora pachyrrhizi* (Sawada) Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora paederiae* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1990 ;*Pseudocercospora pahudiae* (Syd. & P. Syd.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora palicoureae* O.L. Pereira & R.W. Barreto 2006 ;*Pseudocercospora palicoureina* (Petr. & Cif.) U. Braun 2001 ;*Pseudocercospora paleobrunnea* Cheew. & Crous 2009 ;*Pseudocercospora pallida* (Ellis & Everh.) H. D. Shin & U. Braun 2000 ;*Pseudocercospora pallidissima* (Chupp) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora pallidissima* var. *constrictoflexuosa* U. Braun 1995 ;*Pseudocercospora pallidissima* var. *pallidissima* (Chupp) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora paludicola* (Speg.) U. Braun 2000 ;*Pseudocercospora pamelae-ellisiae* (G. P. Agarwal & N. D. Sharma) U. Braun 1999 ;*Pseudocercospora pampangensis* (Petr.) U. Braun 1996 ;*Pseudocercospora panacis* (Thirum. & Chupp) Y. L. Guo & X. J. Liu 1992 ;*Pseudocercospora pancratii* (Ellis & Everh.) U. Braun & R. F. Castañeda 1991 ;*Pseudocercospora pandoreae* U. Braun & C.F. Hill 2006 ;*Pseudocercospora pangiicola* U. Braun & Sivap. 1999 ;*Pseudocercospora pantoleuca* (Sacc.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora paradoxa* U. Braun & Bagyan. 1999 ;*Pseudocercospora paraguayensis* (Tak. Kobay.) Crous 1996 ;*Pseudocercospora paramignyae* (Thirum. & Chupp) Y. L. Guo 1993 ;*Pseudocercospora pareirae* (Speg.) Crous & U. Braun 1996 ;*Pseudocercospora parviflorae* H. S. G. Rao, S. Narayan & Bhartiya 1996 ;*Pseudocercospora passiflorae* U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora passiflorae-setaceae* A.C. Dianese, A.M. Costa & Dianese 2008 ;*Pseudocercospora paulowniae* (Hori) C. Nakash. & Tak. Kobay. 1999 ;*Pseudocercospora*

paulowniae Goh & W. H. Hsieh 1990 ;*Pseudocercospora pavettae-indicae* (Govindu & Thirum.) J. M. Yen, A. K. Kar & B. K. Das 1982 ;*Pseudocercospora pavoniae* (Petr. & Cif.) U. Braun 2001 ;*Pseudocercospora pehriae* U. Braun & R. Urtiaga 2008 ;*Pseudocercospora peltophori* (J. M. Yen) J. M. Yen 1980 ;*Pseudocercospora penicillus* (Ellis & Everh.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora penstemonis* (Ellis & Kellerm.) U. Braun 1999 ;*Pseudocercospora pentanematis* U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora pentatropidis* (S. A. Khan) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora pereskiae* O.L. Pereira & R.W. Barreto 2007 ;*Pseudocercospora pergulariae* (J. M. Yen & Lim) J. M. Yen 1980 ;*Pseudocercospora perillulae* (Togashi & Katsuki) X. J. Liu & Y. L. Guo 1992 ;*Pseudocercospora peristeriae* (H.C. Burnett) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora peronosporoidea* (Pat. & Har.) Deighton 1981 ;*Pseudocercospora persicariae* (W. Yamam.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora petila* Goh & W. H. Hsieh 1990 ;*Pseudocercospora phaea* (Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora phaeochlora* (Speg.) U. Braun, Delhey & Kiehr 2001 ;*Pseudocercospora phaseolicola* Goh & W. H. Hsieh 1990 ;*Pseudocercospora philippinensis* (Tak. Kobay. & E.D. Guzmán) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora photiniaef* (Fukui) C. Nakash. & Tak. Kobay. 2000 ;*Pseudocercospora photiniaef-serrulatae* (L. Anzal. & Plakidas) U. Braun & Crous 2007 ;*Pseudocercospora phrymae* (Naito) C. Nakash. & Tak. Kobay. 2000 ;*Pseudocercospora phrymae* Y. L. Guo & X. J. Liu 1991 ;*Pseudocercospora phyllanthi* (Chupp) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora phyllanthi-niruri* (J. M. Yen) J. M. Yen 1980 ;*Pseudocercospora phyllanthi-pentandri* (J. M. Yen & Gilles) J. M. Yen 1978 ;*Pseudocercospora phyllanthi-reticulati* Deighton 1976 ;*Pseudocercospora phyllitidis* (H.H. Hume) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora physalidis-minimae* (Pavgi & U. P. Singh) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora physaligena* P.N. Singh, M.S. Tripathi, A.N. Singh bis & R.K. Chaudhary 1998 ;*Pseudocercospora physostegiae* U. Braun & Crous 2007 ;*Pseudocercospora phytolaccacearum* Kamal, C. Gupta & A. N. Rai 1986 ;*Pseudocercospora pileae* P. N. Singh, S. K. Singh & S. C. Tripathi 1996 ;*Pseudocercospora pilicola* (Petr. & Cif.) U. Braun 2001 ;*Pseudocercospora pini-densiflorae* (Hori & Nambu) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora piperigena* U. Braun & F.O. Freire 2006 ;*Pseudocercospora piperina* (J. M. Yen) J. M. Yen 1980 ;*Pseudocercospora piperis* (Pat.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora piperis-arborei* D.J. Soares, F.B. Rocha & R.W. Barreto 2008 ;*Pseudocercospora piperis-gigantifolii* F.B. Rocha, D.J. Soares & R.W. Barreto 2008 ;*Pseudocercospora piperis-muricati* (J. M. Yen) J. M. Yen 1980 ;*Pseudocercospora pipturi* (F. Stevens & Glick) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora pipturicola* U. Braun & McKenzie 1999 ;*Pseudocercospora piricola* (Sawada) J. M. Yen 1981 ;*Pseudocercospora pistaciae* (Chupp) Crous & U. Braun 2001 ;*Pseudocercospora*

pittieri (Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora pittospori* (Plakidas) Y. L. Guo & X. J. Liu 1991 ;*Pseudocercospora plagiogyiae* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora platani* (J. M. Yen) J. M. Yen 1978 ;*Pseudocercospora platanicola* (Ellis & Everh.) U. Braun 1997 ;*Pseudocercospora platensis* (Speg.) U. Braun 2000 ;*Pseudocercospora platycaryae* Goh & W. H. Hsieh 1989 ;*Pseudocercospora platylobii* Beilharz & Cunningt. 2003 ;*Pseudocercospora plumeriae* (Chupp) Tak. Kobay., Nishij. & C. Nakash. 1998 ;*Pseudocercospora plumeriifolii* (Bat. & Peres) U. Braun, J. C. David & F. O. Freire 1999 ;*Pseudocercospora plunkettii* (Chupp) R. F. Castañeda & U. Braun 1991 ;*Pseudocercospora plunkettii* (Chupp) R. W. Barreto 1995 ;*Pseudocercospora pluriseptata* C.D. Sharma, Gadp., A.N. Rai & K.M. Vyas 1996 ;*Pseudocercospora pogostemonis* (A. K. Singh & Kamal) U. Braun 1995 ;*Pseudocercospora polliae* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1987 ;*Pseudocercospora poltronieriana* U. Braun & F.O. Freire 2006 ;*Pseudocercospora polyalthiae* J. M. Yen, A. K. Kar & B. K. Das 1982 ;*Pseudocercospora polygonicola* (A. K. Kar & M. Mandal) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora polygonigena* (J.M. Yen) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora polygonorum* (Cooke) Y. L. Guo & X. J. Liu 1991 ;*Pseudocercospora polymniae* (Chupp) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora polypodiacearum* D. N. Shukla, A. K. Singh, P. Kumar & Kamal 1982 ;*Pseudocercospora polysciadis* (S.K. Sun) J.M. Yen 1979 ;*Pseudocercospora polysciatis-pinnatae* U. Braun & Mouch. 1999 ;*Pseudocercospora polytricha* (Cooke) Chupp 1954 ;*Pseudocercospora pomaderridis* U. Braun & C.F. Hill 2003 ;*Pseudocercospora pometiae* U. Braun & R.G. Shivas 2008 ;*Pseudocercospora pongamiae-pinnatae* Raghu Ram & Mallaiah 1993 ;*Pseudocercospora populi* U. Braun & M. Morelet 2000 ;*Pseudocercospora populigena* U. Braun, Alé-Agha & Feige 2005 ;*Pseudocercospora poranae* (Suj. Singh) A. K. Das & Chattopadh. 1990 ;*Pseudocercospora portilloi* (Unamuno) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora pouzolziae* (Syd.) Y. L. Guo & X. J. Liu 1992 ;*Pseudocercospora premnicola* (Boedijn) U. Braun 2001 ;*Pseudocercospora premnicola* Y. L. Guo & X. J. Liu 1992 ;*Pseudocercospora profusa* (Syd. & P. Syd.) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora protearum* (Cooke) U. Braun & Crous 2002 ;*Pseudocercospora protearum* var. *hakeae* (U. Braun & Crous) U. Braun & Crous 2002 ;*Pseudocercospora protearum* var. *leucadendri* (Cooke) U. Braun & Crous 2002 ;*Pseudocercospora protearum* var. *protearum* (Cooke) U. Braun & Crous 2002 ;*Pseudocercospora protensa* (Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora protii* A. Hern. Gut. & Dianese 2009 ;*Pseudocercospora pruni-persicicola* (J. M. Yen) J. M. Yen 1981 ;*Pseudocercospora pruni-yedoensis* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1990 ;*Pseudocercospora prunicola* (Ellis & Everh.) U. Braun 1997 ;*Pseudocercospora pseudarthriae* (Petch) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora pseudehretiae* Chao H. Chung & Tzean 2000 ;*Pseudocercospora*

pseudobasitrunca U. Braun & M.A. Dick 2002 ;*Pseudocercospora*
pseudobombacis A. Hern. Gut. & Dianese 2009 ;*Pseudocercospora*
pseudoeucalyptorum Crous 2004 ;*Pseudocercospora*
pseudotrichodesmatis Bagyan., Jagad. & U. Braun 1991 ;*Pseudocercospora*
psidii (Rangel) R. F. Castañeda & U. Braun 1989 ;*Pseudocercospora*
psidii (Rangel) Sarbajna & Chattopadh. 1991 ;*Pseudocercospora psophocarpi* (J. M. Yen) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora psoraleae* H. S. G. Rao, A. S. Moses & S. Narayan 1996 ;*Pseudocercospora psoraleae-bituminosae* (Savul. & Sandu) Sarbajna 1989 ;*Pseudocercospora psorospermi* Deighton 1979 ;*Pseudocercospora psychotriicola* (Chupp & Dodge) Crous & U. Braun 1994 ;*Pseudocercospora pteridicola* U. Braun & Y. L. Guo 1997 ;*Pseudocercospora pteridis* (Siemaszko) Y. L. Guo & X. J. Liu 1992 ;*Pseudocercospora pteridophytophila* Goh & W. H. Hsieh 1989 ;*Pseudocercospora pterocarpicola* (J. M. Yen) J. M. Yen 1980 ;*Pseudocercospora pterocarpicola* var. *guzmanii* (Tak. Kobay.) U. Braun 1999 ;*Pseudocercospora pterocarpicola* var. *pterocarpicola* (J.M. Yen) J.M. Yen 1980 ;*Pseudocercospora pterocaryaiae* Y. L. Guo & W. X. Zhao 1989 ;*Pseudocercospora pterocauli* (Petr.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora pteroceftidis* U. Braun & Y. L. Guo 1997 ;*Pseudocercospora puderis* B. H. Davis ex Deighton 1976 ;*Pseudocercospora puerariae* (Syd. & P. Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora puerariicola* (W. Yamam.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora puerariina* (J. M. Yen) J. M. Yen 1980 ;*Pseudocercospora pulviniformis* (J. Kranz) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora pulvinula* (Cooke & Ellis) U. Braun 2003 ;*Pseudocercospora pulvinulata* (Sacc. & G. Winter) U. Braun 1997 ;*Pseudocercospora punctata* (Wakef.) B. Sutton 1993 ;*Pseudocercospora punctiformis* Goh & W. H. Hsieh 1990 ;*Pseudocercospora punicae* (Henn.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora punjabensis* (Syd.) U. Braun & Bagyan. 1999 ;*Pseudocercospora purpurea* (Cooke) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora putranjivae* Kamal, P. Kumar, R. P. Singh & D. N. Shukla 1980 ;*Pseudocercospora pycnidiooides* (Chupp) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora pyracanthae* (Katsuki) C. Nakash. & Tak. Kobay. 1997; *Pseudocercospora pyricola* (Sawada) J.M. Yen 1981 ;*Pseudocercospora pyrina* Goh & W. H. Hsieh 1990 ;*Pseudocercospora pyrrosiae* Togashi & Katsuki 1953.....

Pseudocercospora q-s

Pseudocercospora qinlingensis Y. L. Guo 1996 ;*Pseudocercospora quarta* (Chupp & H.C. Greene) Y.L. Guo & Y. Jiang 2000 ;*Pseudocercospora quisqualidis* (Narain & B. S. Mehrotra) Z. D. Jiang & P. K. Chi 1994 ;*Pseudocercospora radermacherae* (Boedijn) U. Braun 2001 ;*Pseudocercospora ramischiae* (Melnik) U. Braun & Melnik 1997 ;*Pseudocercospora randiae* (Thirum. & Govindu) Y. L. Guo & X. J. Liu 1993 ;*Pseudocercospora ranjita* (S. Chowdhury) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora ranunculacearum* C. Gupta, Abbasi & Kamal 1987

Pseudocercospora rapaneae (Syd.) U. Braun 1999 ;*Pseudocercospora rauvolfiae* Deighton 1983 ;*Pseudocercospora rauwolfae-serpentinae* H. S. Rao, Arch. Singh & Kamal 1996 ;*Pseudocercospora repens* (Ellis & Everh.) U. Braun 1997 ;*Pseudocercospora rhabdothamni* U. Braun & C.F. Hill 2004 ;*Pseudocercospora rhamnaceicola* Goh & W. H. Hsieh 1990 ;*Pseudocercospora rhipisicola* (Tominaga) Goh & W. H. Hsieh 1989 ;*Pseudocercospora rhigiocaryae* (J. M. Yen & Gilles) J. M. Yen 1978 ;*Pseudocercospora rhinacanthi* (Höhn.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora rhinocarpi* U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora rhizophorae* (Creager) U. Braun & R. F. Castañeda 1991 ;*Pseudocercospora rhizophoricola* Deighton 1976 ;*Pseudocercospora rhododendricola* (J. M. Yen) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora rhoicissi* (Syd. & P. Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora rhoididis* Y. L. Guo & X. J. Liu 1987 ;*Pseudocercospora rhoina* (Cooke & Ellis) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora rhynchosiae-suaveolentis* Raghu Ram & Mallaiah 1993 ;*Pseudocercospora rhynchosiarum* (Petr. & Cif.) U. Braun 2001 ;*Pseudocercospora rhynchosicola* Bagyan., Jagad. & U. Braun 1991 ;*Pseudocercospora riachueli* (Speg.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora riachueli* var. *horiana* (Togashi & Katsuki) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora riachueli* var. *riachueli* (Speg.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora ribicola* (Ellis & Everh.) U. Braun & Crous 2002 ;*Pseudocercospora richardsoniae* Crous & M. P. S. Câmara 1998 ;*Pseudocercospora richardsoniicola* Crous & M. P. S. Câmara 1998 ;*Pseudocercospora rigidae* Meir. Silva & O.L. Pereira 2007 ;*Pseudocercospora robusta* Crous & M. J. Wingf. 1998 ;*Pseudocercospora rogersoniana* U. Braun & Crous 1996 ;*Pseudocercospora rothmaleri* U. Braun & R. Urtiaga 2008 ;*Pseudocercospora roystoneae* U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora rubi* (Sacc.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora rubi* var. *rubi* (Sacc.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora rubi* var. *subhyalina* H. D. Shin & U. Braun 1996 ;*Pseudocercospora rubicola* (Thüm.) X. J. Liu & Y. L. Guo 1993 ;*Pseudocercospora rubropurpurea* (S. H. Sun) J. M. Yen 1981 ;*Pseudocercospora rugosi* (Chupp) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora rumohrae* Goh & W. H. Hsieh 1989 ; *Pseudocercospora rungiae* R. K. Verma & Kamal 1992 ;*Pseudocercospora sabbatiae* (Ellis & Everh.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora sabiae* Y. L. Guo & W. X. Zhao 1989 ;*Pseudocercospora sacchari* Bhalla & A.K. Sarbhoy 2000 ;*Pseudocercospora saccharicola* (S. H. Sun) J. M. Yen 1981 ;*Pseudocercospora sagarensis* Firdousi, A. N. Rai & K. M. Vyas 1993 ;*Pseudocercospora saketensis* P. Mukerjee & B. B. Singh 1983 ;*Pseudocercospora salicina* (Ellis & Everh.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora salvadorae* (Maire) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora salviae* Goh & W. H. Hsieh 1989 ;

Pseudocercospora samaneae U. Braun & Crous 2003 ; *Pseudocercospora sambucigena* U. Braun, Crous & K. Schub. 2005 ; *Pseudocercospora samuhabeeja* R. K. Verma, M. K. Khan & Kamal 1989 ; *Pseudocercospora samydacearum* A. K. Singh, Kamal & S. K. Singh 1985 ; *Pseudocercospora saniculae-europaea* (E. Müll. & Arx) U. Braun & Crous 2003 ; *Pseudocercospora santalacea* (K.R.G. Nair) U. Braun & Crous 2003 ; *Pseudocercospora sapii-sebiferi* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1990 ; *Pseudocercospora sapiicola* (Speg.) U. Braun 1999 ; *Pseudocercospora sapindemarginati* (T. S. Ramakr. & K. Ramakr.) Y. L. Guo & X. J. Liu 1993 ; *Pseudocercospora sароcephали* (Vienn. -Bourg.) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora saururicola* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1990 ; *Pseudocercospora sawadae* (W. Yamam.) Goh & W. H. Hsieh 1987 ; *Pseudocercospora scabrellae* R. Chaudhary, C. Gupta & Kamal 1991 ; *Pseudocercospora scaevolae* U. Braun & Mouch. 1999 ; *Pseudocercospora schefflerae* W. H. Hsieh & Goh 1990 ; *Pseudocercospora schefflericola* Y.L. Guo 2001 ; *Pseudocercospora schini* (Syd. & P. Syd.) U. Braun & Crous 2003 ; *Pseudocercospora schizolobii* (M.J. Wingf. & Crous) M.J.Wingf. & Crous 2009 ; *Pseudocercospora schrankiicola* U. Braun & F.O. Freire 2004 ; *Pseudocercospora scitula* (Syd.) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora scopariicola* (J. M. Yen) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora scutellariae* (Ellis & Everh.) U. Braun 1999 ; *Pseudocercospora sebastianiae* (R. E. D. Baker & W. T. Dale) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora* sect. *Brachypseudocercospora* U. Braun 1998 ; *Pseudocercospora* sect. *Cercocladospora* (G.P. Agarwal & S.M. Singh) U. Braun 1998 ; *Pseudocercospora* sect. *Cercoseptoria* (Petr.) U. Braun 1998 ; *Pseudocercospora* sect. *Helicomina* (L.S. Olive) U. Braun 1998 ; *Pseudocercospora securinegae* (Togashi & Katsuki) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora sedi* (Ellis & Everh.) U. Braun 1997 ; *Pseudocercospora sedoides* (Ellis & Everh.) U. Braun & Crous 2003 ; *Pseudocercospora serpentinae* (Pandotra & A. Husain) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora sesami* (Hansf.) Deighton 1987 ; *Pseudocercospora sesami-indici* U. Braun 1994 ; *Pseudocercospora sesbaniae* (Henn.) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora sesbaniicola* J. M. Yen 1981 ; *Pseudocercospora shihmenensis* (J. M. Yen) J. M. Yen 1981 ; *Pseudocercospora shoreae* (Thirum. & Chupp) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora shoreae-robustae* H. S. G. Rao, S. Narayan & Poonam Srivast. 1997 ; *Pseudocercospora shoreae-robustae* U. Braun 1995 ; *Pseudocercospora sicerariae* Deighton 1976 ; *Pseudocercospora sidae* (Marchal & Steyaert) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora sieberiana* Raghu Ram & Mallaiah 1992 ; *Pseudocercospora sieberiana* Raghu Ram & Mallaiah 1993 ; *Pseudocercospora silphii* (Ellis & Everh.) U. Braun 1999 ; *Pseudocercospora simaroubae* U. Braun & F. O. Freire 2003 ; *Pseudocercospora simulata* (Ellis & Everh.) U. Braun & R. F.

Castañeda 1989 ;*Pseudocercospora singapurensis* (J. M. Yen) J. M. Yen 1980
 ;*Pseudocercospora siparunae* D.J. Soares & R.W. Barreto 2005 ;*Pseudocercospora siraitiae* R. Kirschner & U. Braun 2003 ;*Pseudocercospora smilacis* Budathoki & S. K. Singh 1995 ;*Pseudocercospora solanacea* B.K. Gupta & Kamal ex U. Braun 1995 ;*Pseudocercospora solandrae* R. Kirschner & U. Braun 2006 ;*Pseudocercospora solani-asperi* (R. E. D. Baker & W. T. Dale) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora solani-longisporae* (J. M. Yen) J. M. Yen 1978 ;*Pseudocercospora solani-melongenica* Goh & W. H. Hsieh 1990 ;*Pseudocercospora solani-torvicolae* Goh & W. H. Hsieh 1989 ;*Pseudocercospora solenae-heterophyllae* (R. K. Verma & Kamal) U. Braun 2000 ;*Pseudocercospora solenostemonis* (J. M. Yen & Gilles) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora sophorae* Y. L. Guo & X. J. Liu 1991 ;*Pseudocercospora sordida* (Sacc.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora sparsa* (Cooke) U. Braun & Crous 2003; *Pseudocercospora spegazziniana* U. Braun 1994 ;*Pseudocercospora spegazzinii* (Sacc.) Y. L. Guo & X. J. Liu 1993 ;*Pseudocercospora sphaerellae-eugeniae* (Rangel) Crous, Alfenas & R. W. Barreto 1997 ;*Pseudocercospora sphaeriiformis* (Cooke) Y. L. Guo & X. J. Liu 1992 ;*Pseudocercospora sphaerulinae* Crous & M.J. Wingf. 2003 ;*Pseudocercospora spilosticta* (Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora spinosae* (Chupp) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora spiraeicola* (A. S. Mull. & Chupp) X. J. Liu & Y. L. Guo 1992 ;*Pseudocercospora squalidula* (Peck) Y. L. Guo & X. J. Liu 1989 ;*Pseudocercospora stachyurina* Goh & W. H. Hsieh 1989 ;*Pseudocercospora stahlii* (F. Stevens) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora stemonae* (Boedijn) U. Braun 2001 ;*Pseudocercospora stephanandrae* (Tak. Kobay. & H. Horie) C. Nakash. & Tak. Kobay. 2000 ;*Pseudocercospora stephaniae* (Suj. Singh) Kamal, M. K. Khan & R. K. Verma 1990 ;*Pseudocercospora stephanicola* Y. L. Guo 1999 ;*Pseudocercospora stephanotidis* (J. M. Yen) J. M. Yen 1980 ;*Pseudocercospora sterculiana* Deighton 1976 ;*Pseudocercospora stereospermicola* Srisk. & Sivan. 1980 ;*Pseudocercospora stevensii* (E. Young) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora stigmaphylllicola* (J. M. Yen) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora stillingiae* (Ellis & Everh.) J. M. Yen, A. K. Kar & B. K. Das 1982 ;*Pseudocercospora stizolobii* (Syd. & P. Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora stransvesiae* (Katsuki & Ts. Kobay.) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora stranvesiae* (Katsuki & Tak. Kobay.) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora strebli* (R. P. Singh) U. Braun 1994 ;*Pseudocercospora stromatosa* Joanne E. Taylor & Crous 2000 ;*Pseudocercospora struthanthi* U. Braun, F. O. Freire & N. Pons 2003 ;*Pseudocercospora strychni* (Syd.) U. Braun, Bagyan. & Jagad. 1992 ;*Pseudocercospora styracis* (Chupp) Y.L. Guo & W.X. Zhao 1993 ;*Pseudocercospora subrufa* (Ellis & Holw.) U. Braun 1993 ;*Pseudocercospora subsessilis* (Syd. & P. Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora subtorulosa* (Syd. & P. Syd.) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora subulata*

Z. Q. Yuan, de Little & C. Mohammed 2000 ;*Pseudocercospora sugimotoana* (Katsuki) Y. L. Guo & X. J. Liu 1993 ;*Pseudocercospora superficialis* R. K. Verma, M. K. Khan & Kamal 1989 ;*Pseudocercospora swieteniae* U. Braun & R. Urtiaga 2008 ;*Pseudocercospora sydowiana* (Chupp) U. Braun & Crous 1999 ;*Pseudocercospora symphyti* Goh & W. H. Hsieh 1989 ;*Pseudocercospora symploci* Deighton 1987 ;*Pseudocercospora symploci* Katsuki & Tak. Kobay. ex U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora symplocicola* (J.M. Yen) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora synedrellae* (J. M. Yen & Gilles) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora syzygii* (M. Mandal) Raghu Ram & Mallaiah 1996 ;*Pseudocercospora syzygii-cumini* U. Braun & Bagyan. 1999 ;*Pseudocercospora syzygiicola* B. Sutton & Crous 1997 ;*Pseudocercospora syzygiigena* U. Braun 2001 ;*Pseudocercospora syzygiorum* B. Sutton & Crous 1997.....

Pseudocercospora t-z

Pseudocercospora tabebuiae-caraibae Inácio & Dianese 2006 ;*Pseudocercospora tabebuiae-roseoalbae* Inácio & Dianese 1998 ;*Pseudocercospora tabernaemontanae* (Syd. & P. Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora tabernaemontanicola* (J. M. Yen) J. M. Yen 1980; *Pseudocercospora tacazzeae* (J.M. Yen & Gilles) J.M. Yen 1979; *Pseudocercospora tagetis* (A.K. Kar & M. Mandal) U. Braun & Crous 2003; *Pseudocercospora tagetis-erectae* Goh & W. H. Hsieh 1989; *Pseudocercospora taichungensis* Goh & W. H. Hsieh 1990 ;*Pseudocercospora taiwanensis* (T. Matsumoto & W. Yamam.) J. M. Yen 1981 ;*Pseudocercospora takiensis* A. K. Das 1991; *Pseudocercospora talisiae* U. Braun & F. O. Freire 2003; *Pseudocercospora tamoneae* (Chupp) U. Braun & R. F. Castañeda 1991 ;*Pseudocercospora tandojamensis* (S.A. Khan & Kamal) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora tecomaе-heterophyllae* (J. M. Yen) Y. L. Guo & X. J. Liu 1993 ;*Pseudocercospora tecomicola* (J. M. Yen) U. Braun & Bagyan. 1999; *Pseudocercospora tectonicola* J. M. Yen, A. K. Kar & B. K. Das 1982; *Pseudocercospora tenuis* (Peck) U. Braun & Crous 2003; *Pseudocercospora tephrosiae* A. N. Rai & Kamal 1989; *Pseudocercospora tereticornis* Crous & Carnegie 2009; *Pseudocercospora terminaliae* (Syd.) Deighton 1976; *Pseudocercospora tetramelis* A. N. Shukla & Sarmah 1984; *Pseudocercospora tetrapanacis* (Sawada ex S. C. Jong & E. F. Morris) Deighton 1990; *Pseudocercospora tetraulaciicola* U. Braun & F. O. Freire 2003; *Pseudocercospora teysmanii* (G.C.S. Barua & K.C. Barua) U. Braun & Crous 2003; *Pseudocercospora thailandica* Crous, Himaman & M.J. Wingf. 2004 ;*Pseudocercospora theae* (Cavara) Deighton 1987; *Pseudocercospora thelypteridis* Goh & W. H. Hsieh 1989; *Pseudocercospora thermopsisidis* (Earle) U. Braun & Crous 2002 ;*Pseudocercospora thespesiae* (Suj. Singh) R. K. Verma, M. K. Khan & Kamal 1989 ;*Pseudocercospora thiloae* U. Braun, J. C. David & F. O. Freire 1999; *Pseudocercospora thladianthae* (Sawada) Goh & W. H. Hsieh

1987; *Pseudocercospora thouiniaef* (F. Stevens) U. Braun & Crous
 2003; *Pseudocercospora thunbergiae* (Boedijn) U. Braun & Sivap. 1999
 ; *Pseudocercospora thunbergicola* (J. M. Yen) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora thymicola* Pellic. 2002; *Pseudocercospora tibouchinae* (Viégas) Deighton 1987; *Pseudocercospora tiglii* (Henn.) Crous, U. Braun & Alfenas 1999 ; *Pseudocercospora tiglii* var. *densa* U. Braun & F. O. Freire 2003 ; *Pseudocercospora tiglii* var. *tiglii* (Henn.) Crous, U. Braun & Alfenas 1999 ; *Pseudocercospora tiliacearum* Bhalla, A. K. Sarbhoy, M. Kulshri. & K. P. S. Kushwaha 2001 ; *Pseudocercospora tiliacorae* (A. K. Kar & M. Mandal) Deighton 1987 ; *Pseudocercospora timorensis* (Cooke) Deighton 1976; *Pseudocercospora tinea* Y. L. Guo & W. H. Hsieh 1995; *Pseudocercospora tinosporae* (Kamal, A. S. Moses & R. Chaudhary) U. Braun 2000; *Pseudocercospora tinosporae* A. N. Rai & Kamal 1989; *Pseudocercospora tinosporicola* U. Braun & Bagyan. 1992; *Pseudocercospora tinosporigena* U. Braun 2005 ; *Pseudocercospora toonae* M. D. Mehrotra & R. K. Verma 1991; *Pseudocercospora toonae* Y. L. Guo & X. J. Liu 1993; *Pseudocercospora toreniae* (Henn.) Deighton 1976; *Pseudocercospora torta* (Tracy & Earle) U. Braun & Crous 2003; *Pseudocercospora tovariae* U. Braun & Crous 2003; *Pseudocercospora toxicodendri* (Ellis) X. J. Liu & Y. L. Guo 1989 ; *Pseudocercospora transvaalensis* (Syd.) Deighton 1976; *Pseudocercospora trematicola* (J.M. Yen) Deighton 1976; *Pseudocercospora trematicola* Kamal, P. Kumar, R. P. Singh & D. N. Shukla 1980; *Pseudocercospora trematigena* U. Braun & F.O. Freire 2006 ; *Pseudocercospora trematis-cannabini* (J. M. Yen & Lim) Deighton 1976; *Pseudocercospora trematis-guineensis* (J. M. Yen & Gilles) J. M. Yen 1978; *Pseudocercospora trematis-orientalis* (S. K. Sun) Deighton 1976; *Pseudocercospora trewiae-nodiflorae* H. S. G. Rao, Arch. Singh & Kamal 1998; *Pseudocercospora trichiliae* (U. Braun) U. Braun 2002 ; *Pseudocercospora trichodesmatis* (Govindu & Thirum.) U. Braun & Crous 2003 ; *Pseudocercospora trichophila* (F. Stevens) Deighton 1976; *Pseudocercospora trichostigmatis* (F. Stevens) Deighton 1976; *Pseudocercospora trichoxanthidicola* Kamal, A. N. Rai & A. S. Moses 1991; *Pseudocercospora triloba* (Chupp) U. Braun & Crous 2003 ; *Pseudocercospora trinidadensis* (F. Stevens & Solheim) Crous, U. Braun & Alfenas 1999 ; *Pseudocercospora triplaridis* U. Braun & R. Urtiaga 2008; *Pseudocercospora triumphetae* (Syd.) Deighton 1976; *Pseudocercospora triumphettigena* (J. M. Yen & Gilles) Deighton 1976; *Pseudocercospora tuberculans* (Ellis & Everh.) U. Braun 1999 ; *Pseudocercospora turnerae* (Ellis & Everh.) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora turnericola* (Syd. & P. Syd.) U. Braun & F. O. Freire 2003 ; *Pseudocercospora tylophoricola* U. Braun, Bagyan. & Jagad. 1992 ; *Pseudocercospora ubajarensis* U. Braun & F.O. Freire 2004 ; *Pseudocercospora ubatubensis* (Chupp & Viégas) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora ubi* (Racib.) Deighton 1976; *Pseudocercospora ubicola* (J. M.

Yen) Deighton 1976; *Pseudocercospora udagawana* (Katsuki) X. J. Liu & Y. L. Guo 1989 ; *Pseudocercospora ulmifoliae* (Obreg.-Bot.) U. Braun & Crous 2003 ; *Pseudocercospora unguis-cati* (Speg.) U. Braun 1994; *Pseudocercospora unicolor* (Sacc. & Penz.) P. M. Kirk 1983; *Pseudocercospora universitica* C. D. Sharma & A. N. Rai 1996 ; *Pseudocercospora urariae* Sawada ex Deighton 1976; *Pseudocercospora urariae-pictae* H. S. G. Rao, S. Narayan & Poonam Srivast. 1997; *Pseudocercospora urariarum* (A.K. Kar & M. Mandal) U. Braun & Crous 2003; *Pseudocercospora urariicola* Deighton 1987 ; *Pseudocercospora urenae* (Viégas & Chupp) A. Hern. Gut. & Dianese 1996 ; *Pseudocercospora uromycestri* (Pollack) U. Braun & Crous 2003; *Pseudocercospora urticacearum* R. K. Verma & Kamal 1989; *Pseudocercospora ustertiana* (Speg.) U. Braun 1996; *Pseudocercospora vaccinii* (Katsuki & Tak. Kobay.) C. Nakash. & Tak. Kobay. 2000; *Pseudocercospora vaccinii-virgati* U. Braun & Crous 2003; *Pseudocercospora valeriana* (Solheim) U. Braun 1993; *Pseudocercospora vanieriae* (Chupp & Linder) U. Braun & Crous 2003; *Pseudocercospora vanuatuensis* U. Braun & McKenzie 1999; *Pseudocercospora varia* (Peck) J. K. Bai & M. Y. Cheng 1992; *Pseudocercospora variabilis* U. Braun & F.O. Freire 2004; *Pseudocercospora variicolor* (G. Winter) Y. L. Guo & X. J. Liu 1993; *Pseudocercospora vataireae* (Henn.) U. Braun & F. O. Freire 2003; *Pseudocercospora velutina* (Ellis & Kellerm.) U. Braun & Crous 2003; *Pseudocercospora velutinomaculans* U. Braun & F. O. Freire 2003; *Pseudocercospora venezuelae* (Chupp) Deighton 1976; *Pseudocercospora vernoniacearum* D. N. Shukla, A. K. Singh, P. Kumar & Kamal 1982; *Pseudocercospora veronicicola* (P. Karst.) W. P. Wu, B. Sutton & Gange 1996; *Pseudocercospora vestitae* (T. S. Ramakr.) Deighton 1976 ; *Pseudocercospora vexillatae* (J.M. Yen) U. Braun 1999; *Pseudocercospora viburni* U. Braun 1992; *Pseudocercospora viburni-cylindrici* (F. L. Tai) U. Braun 1992 ; *Pseudocercospora viburnigena* U. Braun & Crous 2002; *Pseudocercospora vignae-reticulatae* Deighton 1976; *Pseudocercospora vignicola* (J. M. Yen, A. K. Kar & B. K. Das) U. Braun 1999; *Pseudocercospora vignigena* J. M. Yen, A. K. Kar & B. K. Das 1982 ; *Pseudocercospora violae* Deighton 1987; *Pseudocercospora violamaculans* (Fukui) C. Nakash. & Tak. Kobay. 2002; *Pseudocercospora violicola* X. J. Liu & Y. L. Guo 1987 ; *Pseudocercospora virgiliae* U. Braun & C.F. Hill 2008; *Pseudocercospora vismiae* (Syd.) U. Braun & Crous 2003; *Pseudocercospora vismiicola* (Chupp) U. Braun & Crous 2003 ; *Pseudocercospora viticicola* (J. M. Yen & Lim) J. M. Yen 1980 ; *Pseudocercospora viticicola* U. Braun 1993; *Pseudocercospora viticicola* U. Braun 1995 ; *Pseudocercospora viticigena* J. M. Yen, A. K. Kar & B. K. Das 1982 ; *Pseudocercospora viticis* Sawada ex Goh & W. H. Hsieh 1989 ; *Pseudocercospora viticis-quinatae* (J. M. Yen) J. M. Yen 1978 ; *Pseudocercospora vitigena* J. M. Yen,

A. K. Kar & B. K. Das 1982 ;Type Species:*Pseudocercospora vitis* (Lév.) Speg. 1910;*Pseudocercospora vulpinae* (Ellis & Kellerm.) U. Braun 1997;*Pseudocercospora waltheriae* (Thirum. & Chupp) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora waltheriae* Barde & Nene 1985;*Pseudocercospora warcupii* Beilharz, Pascoe & Parbery 2002;*Pseudocercospora websteri* (P.Rag. Rao, Manohar. & P.Rama Rao) U. Braun 2002;*Pseudocercospora wedeliae* (A. K. Kar & M. Mandal) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora weigelae* (Ellis & Everh.) Deighton 1987 ;*Pseudocercospora wellesiana* (Chupp) X. J. Liu & Y. L. Guo 1993 ;*Pseudocercospora whalianensis* (J.M. Yen & S.K. Sun) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora wisteriicola* (J. M. Yen) J. M. Yen 1978 ;*Pseudocercospora withaniae* (Syd. & P. Syd.) Deighton 1976 ;*Pseudocercospora woodfordiae* X. J. Liu & Y. L. Guo 1993 ;*Pseudocercospora woodfordiigena* U. Braun & Crous 2003;*Pseudocercospora wrightiae* (Thirum. & Chupp) Deighton 1976;*Pseudocercospora wrightiicola* (Satya) Deighton 1976;*Pseudocercospora xanthorrhizae* U. Braun & Crous 2005;*Pseudocercospora xenoannonicola* Crous & Bench. 2001;*Pseudocercospora xenosyzygiicola* Crous 1999;*Pseudocercospora xeromphidicola* Kamal, P. Kumar, R. P. Singh & D. N. Shukla 1980;*Pseudocercospora xeromphina* H. S. Rao, A. S. Moses & P. N. Singh 1996;*Pseudocercospora xerophytae* B. Sutton 1993;*Pseudocercospora ximeniae* Bagyan. & U. Braun 1992;*Pseudocercospora yeniana* U. Braun & F.O. Freire 2004 ;*Pseudocercospora yerbae* (Speg.) U. Braun 2000;*Pseudocercospora yoshinagiana* (Chupp) U. Braun & Crous 2003;*Pseudocercospora zambalesica* (Petr.) U. Braun 1996 ;*Pseudocercospora zambiensis* (Deighton) B. Sutton 1994;*Pseudocercospora zanthoxyli* (Cooke) Y. L. Guo & X. J. Liu 1991;*Pseudocercospora zanthoxylcola* Crous & U. Braun 2001 ;*Pseudocercospora zehneriae* (A.K. Kar & M. Mandal) U. Braun & Crous 2003 ;*Pseudocercospora zelkovae* (Hori) X.J. Liu & Y.L. Guo 1993 ;*Pseudocercospora zeyheriae* (Henn.) Dianese, Furlan. & L. T. P. Santos 1999 ;*Pseudocercospora zingiberis* (Rathaiah) Deighton 1983 ;*Pseudocercospora ziziphi* (Petch) Crous & U. Braun 1996 ;*Pseudocercospora ziziphicola* (J. M. Yen) J. M. Yen 1978 ;*Pseudocercospora zizophina* P.N. Singh, M.S. Tripathi, A.N. Singh bis & R.K. Chaudhary 1998 ;*Pseudocercospora zorniae* (J. M. Yen & Gilles) Deighton 1976.

ذكر الجنسين القديم والبديل ***Pseudocercospora*** ضمن العائلة الكيسية ***Stigmina*** و***Mycosphaerellaceae*** Lindau, 1897 التي ضمت ما يقارب 225 جنس كيسي وفق المصنف **Mycobank** وكما يلي:

A-C

Acervuloseptoria;Achorodothis;Acrocladium;Acrodesmis;Acrotheca;Allantophomoides;Amycosphaerella;Ancylospora;Anematidium;Anguillosporella;Annellosympodiella;Apseudocercosporella;Ascospora;AsperisporiumAustralosphaerella;Bertero

myces;Biharia;Brunneosphaerella;Brunswikiella;Camptomeriphila;Caryophyllose
ptoriaCatenolaria;Catenulocercospora;Cercocladospora;Cercodeuterospora;Cercor
amularia;Cercoseptoria;Cercosphaerella;Cercospora;Cercosporella;Cercosporidiu
m;Cercosporina;Cercosporiopsis;Cercostigmina;Chuppomyces;Cibessia;Cladocilli
um;Claro hilum;Clypeispora;Clypeosphaerella;Collapsimycopappus;CollarisporaC
olletogloeum;Coremiopassalora;Cyclodothis;Cymadothea;..

D-K

Davidiella;Davisoniella;Deightonella;Deightonomyces;Devonomyces;Dictyoceph
ala;Dictyosporina;Didymaria;Didymellina;Diplochora;Diplochorella;Discella;Dist
ocercospora;Distocercosporaster;Distomycovello siella;Dothiostroma;Dothistroma
Elletevera;Epicoleosporium;Epicy matia;Eriocercospora;Eriocercosporella;Eriocerc
osporella;Euryachora;Exutisphaerella;Filaspora;Filiella;Fulvia;Fusicladiella;Fusoid
iella;Gillotia;Gomphinaria;Graminopassalora;Haplodothis;Helicobolus;Helicomina
;Hippopotamyces;Hyalocercosporidium;Hyalodictys;Hyalodothis;Hyalozasmidium
;Hypomycopsis;Isariopsella;Isariopsis;Jaczewskiella;Juncomyces;Kirramyces;

L-N

Laocoön;Lecanosticta;Lecanostictopsis;Lizoniella;Madagascaromyces;Marcosia;
Melanodothis;Melanopsammopsis;Microcyclus;Micronectriella;Micronematomyce
s;Miuraea;Mucomycosphaerella;Mycodiella;Mycosphaerella;Mycosphaerelloides
Mycovello siella;Neoceratosperma;Neocercospora;Neocercosporidium;Neodeighto
niella;Neokirramyces;Neomycosphaerella;Neopenidiella;Neophloeospora;Neopseu
docercospora;Neopseudocercospora;Neoramichloridium;Neoseptoria;Nothopass
alora;Nothopericoniella;Nothophaeocryptopus;Nothoseptoria;Nothotrimmatostrom
a;

O-Q

Oligostroma;Ophiocarpella;Ophiocladium;Oreophylla;Ovospaerella;Ovularia;Pac
hyramichloridium;Pallidocercospora;Pantospora;Paracercospora;Paracercosporidiu
m;Paramycosphaerella;Paramycovello siella;Parapallidocercospora;Passalora;Pazsc
hkeella;Pedrocrousiella;Perconiella;Phacellium;Phaeoisariopsis;Phaeophleospora;
Phaeoramularia;Phaeothecoidea;Pharcidia;Pharciopsis;Phloeochora;Phloeospora;
Placocrea;Pleopassalora;Pleuropassalora;Pluripassalora;Plurivorusphaerella;Polyp
haloseptoria;Polythrincium;Protostegia;Pruniphilomyces;Pseudocercospora;Pseud
ocercospora;Pseudocercosporidium;Pseudopericoniella;Pseudophaeophleospora;
Pseudophaeoramularia;Pseudopuccinia;Pseudosphaerella;Pseudostigmidium;Pseud
ovularia;Pseudozasmidium;Quasiphloeospora;..

R-Z

Ragnhildiana;Ramichloridium;Ramosphaerella;Ramularia;Ramulariopsis;Ramulari
sphaerella;Ramulispora;Rhabdospora;Rhachisphaerella;Rhopaloconidium;Rosisph
aerella;Ruptoseptoria;Scirrhia chora;Scolecostigmina;Semipseudocercospora;Septa
ria;Septocylindrium;Septoria;Septorisphaerella;Septosphaerella;Sirosporium;Sond

erhenia;Spermophyllosticta;Sphaerella;Sphaerellothecium;Sphaerialea;Sphaerulina Spilosphaeria;Stenellopsis;Stigmadium;**Stigmina**;Stromatoseptoria;Sultanimyces;Tandonella;Tapeinosporium;Trochophora;Uwemyces;Vellosiella;Verrucispora;Verrucisporota;Virgasporium;Virosphaerella;Walkeromyces;Xenomycosphaerella;Xenopassalora;Xenoramularia;Xenosonderhenia;Xenosonderhenioides;Zasmidium;Zymoseptoria.

عرفت العائلة الكيسية 1897 **Mycosphaerellaceae** Lindau, 1897 بالاسم المرادف التالي : (Synonym) **Sphaerellaceae** Nitschke, 1869

https://www.google.com/search?q=image+of+Pseudocercospora&rlz=1C1CHBF_enUS982US982&sxsrf=AOaemvKkJ2Ho63kwWfT0-GTYSobqLHyN0g:1641664683620&tbo=isch&source=iu&ictx=1&fir=YO27sDqAoyZD-M%252CQx215OAxiTGe-M%252C%253Bfy57ZV8CaUwzBM%252C9_DC0ToLscK_6M%252C%253Bh9jUYLXv3XY6IM%252Cx_3RocuR9ZMpXM%252C%253B3nsQm0MHel2tM%252CQx215OAxiTGe-M%252C%253BnS0W_b9xhUiw6M%252Cr9mXTmaG7JyzjM%252C%253BIoOoN5sUdNy4rM%252C1BbKsfLg8VUcEM%252C%253BIIlieYgN_D21GM%252CQx215OAxiTGe-M%252C%253Bilsk0s-b8s2S3M%252C9_DC0ToLscK_6M%252C%253B00nTr3eNFSBjSM%252CQx215OAxiTGe-M%252C%253BOp7WiCnfXlmakM%252Cr9mXTmaG7JyzjM%252C&vet=1&usg=AI4_-kTYMpgBFrypS9rlz6bGyH65F3WaIA&sa=X&ved=2ahUKEwjTp7rC3aL1AhX1nWoFHYULDZQQ9QF6BAGEEAE#imgrc=YO27sDqAoyZD-M

https://www.google.com/search?q=image+of+Stigmina&rlz=1C1CHBF_enUS982US982&sxsrf=AOaemvJAFwBsh4n9bzYG-F0z1k1CGuV3Fw:1642737501596&tbo=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=1Mrgi5MLdzfRfM%252Ce64Jr4JjW9WqtM%252C%253BF9uMuGiQO8bJNM%252Ce64Jr4JjW9WqtM%252C%253BgFbdcT52w0ehFM%252Ce64Jr4JjW9WqtM%252C%253BEaf8RA9ttD5XsM%252CK9pHaKcVLvHlhM%252C%253B

Eucalyptus-LS84

تبقع سوبروتيراتوسفيريما Suberoteratosphaeria Leaf Spot



أعراض مرضية على أغصان وأوراق شجرة يوكالبتوس بسبب نوعين من الجنس الكيسي وكمالي: E: مقطع عمودي خلال الجسم الثمري *Pseudothecium* للنطر *Suberoteratosphaeria suberosa* ، F: تراكيب النطر *Suberoteratosphaeria pseudosuberosa* ، G: أكياس وأبواغ كيسية ، H: أبواغ كيسية نابته، I: مستعمرة النطر على وسط البطاطا دكستروز-أكر (PDA) ، J,K: أبواغ كونيدية . مقياس الرسم 10 ميكرومتر.

ضم الجنس الكيسي **Suberoteratosphaeria** Quaedvl. & Crous, 2014 الأنواع الثلاثة التالية:

Suberoteratosphaeria pseudosuberosa; Suberoteratosphaeria suberosa; Suberoteratosphaeria xenosuberosa

و جميعها تسبب أعراض تبقع أوراق أشجار اليوكالبتوس وكما يلي:

: *Suberoteratosphaeria pseudosuberosa* توصف البقع التي يسببها الفطر المذكور بأنها فلينية النسجة عندما تكون على حوامل الوراق ، بنية اللون، يكون الفطر أبوااغ كيسية، شفافة اللون، متداخلة داخل الكيس الواحد، مستقيمة أو منحنية قليلا، يحوي كل بوغ حاجز واحد و تختصر عند الحاجز، وكل بوغ له نهايات مستدقة، بأبعد 14-12 X 3.5-4 ميكرومتر. عزل الفطر من أوراق وحوامل أوراق شجرة يوكالبتوس نامية في أحد مناطق أوروغواي. عرف الفطر المذكور بالإسم المرادف *Teratosphaeria pseudosuberosa* (Crous & M.J. Wingf.) Crous & U. Braun, 2007.

: *Suberoteratosphaeria suberosa* تترواح قطرات البقع ما بين نصف و 1.5 مليمتر ، بألوان ما بين البني الوسط والبني الداكن، ذات نسجة فلينية لها تحدها حافات حمراء. عزل الفطر من أوراق شجرة يوكالبتوس تابعة للنوع *Eucalyptus dunnii* نامية في البرازيل . تترواح أبعاد الأبوااغ الكيسية التي تتكون في أكياس ذات جدارين داخل فجوات في الحشو *Ascomata* يطلق عليها Pseudothecia . عرف الفطر الكيسى بالإسم المرادف *Teratosphaeria suberosa* (Crous et al.) Crous & U. Braun, 2007.

: *Suberoteratosphaeria xenosuberosa* تمايز بقع الفطر المذكور تلك البقع المتسبيبة عن الفطر *Suberoteratosphaeria suberosa* ، فلينية النسجة، يوجد في كل بوغ كيسى حاجز واحد مع تختصر عند الحاجز ، الأبوااغ مستقيمة أو منحنية قليلا ، بجدران سميكه ، عريضة في وسط الخلية الطرفية ، تترواح أبعاد الأبوااغ الكيسية 13-11 X 4.5-5 ميكرومتر. تصبح ألوان الأبوااغ الكيسية بنية اللون عند إنباتها. عزل الفطر المذكور من أوراق شجرة يوكالبتوس تابعة للنوع *Eucalyptus moluccana* نامية في أحد مناطق Queensland الأسترالية.

صنفت الفطريات الثلاثة المسيبة لتبقع أوراق اليوكالبتوس ضمن المراتب التصنيفية التالية في القبيلة الكيسية ومملكة الفطريات وكما يلي وفق المصنف : Mycobank

Pathogens: *Suberoteratosphaeria pseudosuberosa; Suberoteratosphaeria suberosa& Suberoteratosphaeria xenosuberosa, Genus:*

Suberoteratosphaeria Quaedvl. & Crous, 2014,Family:

Teratosphaeriaceae, Order: Mycosphaerellales, Subclass:

Dothideomycetidae, Class: Dothideomycetes, Subphylum:

Pezizomycotina, Phylum: Ascomycota, Subkingdom: Dikarya, Kingdom: Fungi


وكما ذكرنا أعلاه فإن الجنس الكيسى 2014 ضم ***Suberoteratosphaeria*** Quaedvl. & Crous, 2014 الأنواع الثلاثة المذكورة أعلاه بضمنها النوع الأصلي *Suberoteratosphaeria suberosa* (Crous, F.A. Ferreira, Alfenas & M.J. Wingf.) Quaedvl. & Crous, 2014

ذكر الجنس الحالي **Teratosphaeriaceae** Crous **ضمن العائلة الكيسية Suberoteratosphaeria** & التي ضمت ما يقارب 50 جنس كيسي وفق المصنف Mycobank وكما يلي: U. Braun, 2007

Acidiella; Acrodontium; Anabahusakala; Apenidiella; Araucasphaeria; Austroafricana ; Austrostigmidium; Batcheloromyces; Caatingomyces; Catenulostroma; Colletogloeo psis; Eupenidiella; Euteratosphaeria; Fodinomyces; Haniomyces; Hortaea; Hyweljones iaLawreya; Magnuscella; Muriphila; Myrtapenidiella; Neocatenulostroma; Neohortae a; Neophaeothecoidea; Neotrimmatostroma; Nothostrasseria; Oleoguttula; Palmeirom yces; Parapenidiella; Parateratosphaeria; Penidiellomyces; Petrophila; Pseudoteratosphaeria; Queenslandipenidiella; Ramopenidiella; Readeriella; Simplicidiella; Stenella; **S uberoteratosphaeria**; Teratoramularia; Teratosphaeria; Teratosphaericola; Teratosphaeriopsis; Walkaminomyces; Xenoconiothyrium; Xenopenidiella; Xenophacidiella; X enoteratosphaeria.

أختير الجنس الكيسي **Teratosphaeria** Syd. & P. Syd., 1912 كجنس أصلي للعائلة.

Teratosphaeria Leaf Spot . تقع تيراتوسفيرا Eucalyptus-LS85




أعراض تقع أوراق أشجار اليوكلاليبيتوس المتسبيه عن عدة أنواع من الجنس الكيسي *Teratosphaeria* وكما يلي:
 A: أعراض تقع الفطر *Teratosphaeria cryptica* على شجرة من النوع *Eucalyptus globulus* ،
 B: أعراض تقع الفطر *Teratosphaeria verrucosa* على أوراق أشجار اليوكلاليبيتوس، C: أعراض التقع متسبيه عن الفطر *Teratosphaeria eucalypti*، D: أعراض تقع بسبب الفطر *Teratosphaeria eucalypti* على شجرة يوكاليبتوس تابعة للنوع *Eucalyptus globulus nubilosa* ، E: أعراض تقع أوراق بسبب الفطر *Teratosphaeria pseudoeucalypti* ، F: أعراض تقع أوراق أشجار يوكاليبتوس بسبب الفطر *Teratosphaeria destructans* ، G: *Teratosphaeria fimbriata* ، H: *Teratosphaeria epicoccoides* .


على الرغم من ان هناك نوعين تابعين للجنس الكيسي *Teratosphaeria* Syd. & P. Syd., **1912 وهما**

Teratosphaeria gauchensis* and *Teratosphaeria zuluensis

يسبيان أعراض تقرح الساق في أشجار اليوكلاليبيتوس ، إلا أن هناك مايقارب 50 نوع تسبب أعراض تقع الأوراق ضمن الجنس الكيسي **Teratosphaeria** Syd. & P. Syd., 1912 وكما يلي:



تركيب الطور الاجنسي لعدد من أنواع الجنس الكيسي *Teratosphaeria* وكما يلي: A: كونidiومات الفطر مغمورة في نسيج العائل ، B: كتل من أبواغ كوندية للفطر *Teratosphaeria epicoccoides* ، C: مقطع عمودي خلال كونديومات الفطر *Teratosphaeria corymbiae* ، D: كونديومات الفطر *Teratosphaeria viscida* ، E,F. ، G: أبواغ كوندية للفطر *Teratosphaeria australiensis* ، H: أبواغ كوندية للفطر *Teratosphaeria epicoccoides* ، I: أبواغ الفطر *Teratosphaeria corymbiae* ، J: أبواغ كوندية للفطر *Teratosphaeria viscida* . مقياس الرسم 10 ميكرومتر .



أعراض تقع أوراق أشجار اليوكلاليتوس وتراكيب الفطر الكسيي المسبب *Teratosphaeria molleriana* وكما يلي: A: أعراض التقع والأسهم تشير إلى أسكوماتا شبه مغموره في نسيج العائل، B: تبويع على الوسط (أبوااغ كونيدية وخلايا مولدة للأبوااغ الكونيدية، C,D. Malt Extract Agar (MEA) : أكياس ، E,F. G: أبوااغ كيسية، H: أبوااغ كيسية في حالة إنبات . مقياس الرسم 10 ميكرومتر.

تكون فطريات الجنس تراكيب الطورين الجنسي واللاجنسي حيث تتكون الأبوااغ الكونيدية داخل تراكيب متعدده منها أجسام بكنيدية أو أسيروفولي أو سبورودوكيا ويكون الغزل الفطري بلونبني . توصف الأبوااغ الكونيدية التي تنشر أعراض الفطر خلال الموسم بأنها غير مقسمه أو مقسمه إعتمادا على النوع ، تنتج مفرده أو بسلاسل ، كما ينتج الفطر أبوااغه الكيسية . نستعرض أدناه الأنواع المسببة لتقع أوراق أشجار اليوكلاليتوس :

بقع الفطر *Teratosphaeria albocnidia*: عزل الفطر من أوراق شجرة يوكالاليتوس تابعة للجنس *Eucalyptus miniate* نامية في شمال أستراليا . تترواح أقطار بقع الأوراق الغير

منتضمة مابين 3 و 6 مليمتر بلون رمادي مع حفافات رفيعة بلونبني . يكون الفطر أبوااغ كونيدية مفردة وبلون مابين البني والبني الشاحب، غير مقسمه، أطرافها العليا مدوره، بينما أطرافها السفلية مسطحة بأبعاد 6-5 X 2.5 - 3 ميكروميتير.

بقع الفطر *Teratosphaeria alcornii*: عزل الفطر من شجرة يوكاليبتوس تابعة للنوع *Eucalyptus tessellaris* نامية في منطقة Brisbane الأسترالية . يكون الفطر أبوااغ الكونيدية في تراكيب السبورودوكيا. التي تبرز على السطح عند نضوج الأبوااغ الكونيدية ، وقد تصل قطرار تلك التراكيب الصحنية لـ 150 ميكروميتير. توصف الأبوااغ الكونيدية بأنها شبه إسطوانية ، بطرف علوي مدور وقاعدة مسطحة بأبعاد 31-25 X 10-7 ميكروميتر لها تخصيص عند الحاجز أو الحواجز التي تتراوح مابين 1 و 3 .

بقع الفطر *Teratosphaeria angophorae*: تتراوح قطرار البقع المتبقيه عن الفطر المذكور مابين 2 و 8 مليمتر ، دائريه إلى غير منتضم الشكل، قد تكون متقرقه بلونبني محمر تحيطها أنسجة بلون إرجواني . تتراوح أبعاد الأبوااغ الكونيدية مابين 9 و 15 X 4-2.5 ميكروميتير. عزل الفطر المذكور كذلك من أوراق العائل النباتي *Angophora floribunda* في أحد مناطق New South Wales الأسترالية .

بقع الفطر *Teratosphaeria aurantia*: عزل الفطر من أوراق شجرة يوكاليبتوس تابعة للنوع *Eucalyptus grandis* نامية في منطقة Rosedale الأسترالية. تصل اقطار البقع مابين نصف و 5 مليمتر بلونبني شاحب بحافات فلينية النسجة . تتراوح أبعاد الأبوااغ الكونيدية 14-11 X 3.5-2.5 ميكروميتير.

بقع الفطر *Teratosphaeria australiensis*: عزل الفطر من أوراق شجرة *Corymbia ficifolia* عرفت سابقا بإسم *Eucalyptus ficifolia* نامية في غرب أستراليا وكذلك على شجرة *Corymbia calophylla* نامية في مدينة برث الأسترالية. توصف البقع بأنها بنية اللون، غير منتضم وقد تتسع لتشبه اللطخه (Blotch) ولها حفافات بلون إرجواني محمر. وصفت الأبوااغ الكونيدية بأنها بنية اللون، غير مقسمه، بيضوية الشكل ، بأبعاد 7-11 X 4.5-6.5 ميكروميتير.

بقع الفطر *Teratosphaeria biformis*: بقع دائريه الشكل، بلونبني شاحب ، تتراوح قطرارها مابين نصف إلى 5 مليمتر وقد تمتد لمساحات أكبر . ينتج الفطر أبوااغ الكونيدية التي تكون شبه شفافه عندما تكون حديثة وتتصبح بلونبني عند النضج، غير مقسمه، ذات جدران سميكة، وقواعد سطحيه وأبعادها 7-10 X 3-4 ميكروميتير . عزل الفطر من أوراق شجرة يوكاليبتوس تابعه للنوع *Eucalyptus globulus* نامية في منطقة Rosedale الأسترالية.

بقع الفطر *Teratosphaeria blakelyi*: عرف الفطر بالإسم المرادف *Readeriella blakelyi*. يسبب الفطر المذكور بقع بلونبني شاحب غير منتضم، قد تصل قطرارها 7 مليمتر غالبا ما ترتبط بضرر أحد الآفات الحشرية (Wasp damage) . ينتج الفطر أبوااغ كونيدية بلونبني شاحب أيضا، وتتراوح أبعادها مابين 9 و 10 ميكروميتير طولا وبعرض 3-4 ميكروميتير. عزل الفطر من أوراق شجرة يوكاليبتوس تابعة للنوع *Eucalyptus blakelyi* في New South Wales الأسترالية.

كما تسبب الأنواع التالية من الجنس الكيسى *Teratosphaeria* أعراض تقع أوراق أشجار اليوكاليبتوس وكما يلى:

الفطر *Teratosphaeria brunneotingens* عزل الفطر من أوراق شجرة يوكالبتوس تابعة للنوع *Eucalyptus tereticornis* في أحد مناطق الأسترالية. تصل أقطار البقع 3 مليمتر بلون بني متوسط.

الفطر *Teratosphaeria calophyllae*: عزل الفطر المذكور من أحد الأشجار التي كانت تعرف كأحد أشجار اليوكالبتوس وإسمها *Corymbia calophylla*. تصل أقطار البقع التي يسببها الفطر المذكور 54 مليمتر ، بلون بني شاحب يميل للرمادي . تتراوح أبعاد الأبواغ الكيسية 8.5 - 4-2.5 ميكرومتر. X11.5

الفطر *Teratosphaeria complicata*. عزل الفطر من أوراق أحد أشجار يوكالبتوس تابعة للنوع *Eucalyptus miniate* في أحد مناطق شمال أستراليا. تتراوح أقطار البقع ما بين 10 و20 مليمتر بلون بني مع حافات بلون إرجواني محمر.

الفطر *Teratosphaeria considerianae*: عزل الفطر من أوراق أحد أشجار اليوكالبتوس التابعة للنوع *Eucalyptus consideriana* نامية في New South Wales الأسترالية. عرف الفطر المذكور *Readeriella considerianae* (Crous & Summerell) Crous & U. Braun، بالإسم المرادف 2007. إي إن النوع قد نقل من الجنس *Readeriella* إلى الجنس *Teratosphaeria* عام 2009. تتراوح قطر البقع التي يسببها على أوراق اليوكالبتوس ما بين 1 و 4 مليمتر ، محاطة بحافات إرجوانية محمرة. ينتج الفطر أبواغ كونيديا بأبعاد 7-9 X 3-4 ميكرومتر. ومن الجدير بالذكر هناك ما يقارب 40 نوع آخر من الجنس الكيسى *Teratosphaeria* تسبب أعراض تقع أوراق أشجار اليوكالبتوس في مناطق متفرقة من العالم ولو إن غالبيتها قد جمعت من مناطق مختلفة من أستراليا وكما يلي:

الفطر *Teratosphaeria coolabuniensis*

الفطر *Teratosphaeria corymbiae*

الفطر *Teratosphaeria crispata*

الفطر *Teratosphaeria cryptica*

الفطر *Teratosphaeria delegatensis*

الفطر *Teratosphaeria destructans*

الفطر *Teratosphaeria dimorpha*

الفطر *Teratosphaeria dunnii*

الفطر *Teratosphaeria epicoccoides*

الفطر *Teratosphaeria eucalypti*

الفطر *Teratosphaeria fimbriata*

الفطر *Teratosphaeria foliensis*

الفطر *Teratosphaeria henryi*

الفطر *Teratosphaeria hortaea*

الفطر *Teratosphaeria juvenalis*

الفطر *Teratosphaeria lilianiae*

الفطر *Teratosphaeria majorizuluensis*

الفطر *Teratosphaeria mexicana*

الفطر *Teratosphaeria micromaculata*

الفطر *Teratosphaeria miniata*

الفطر *Teratosphaeria molleriana*

الفطر *Teratosphaeria multiseptata*

<i>Teratosphaeria novaehollandiae</i>	الفطر
<i>Teratosphaeria nubilosa</i>	الفطر
<i>Teratosphaeria ovata</i>	الفطر
<i>Teratosphaeria pluritubularis</i>	الفطر
<i>Teratosphaeria praelongispora</i>	الفطر
<i>Teratosphaeria profusa</i>	الفطر
<i>Teratosphaeria pseudocryptica</i>	الفطر
<i>Teratosphaeria pseudoeucalypti</i>	الفطر
<i>Teratosphaeria pseudonubilosa</i>	الفطر
<i>Teratosphaeria rubida</i>	الفطر
<i>Teratosphaeria stellenboschiana</i>	الفطر
<i>Teratosphaeria tinarooa</i>	الفطر
<i>Teratosphaeria tiwiana</i>	الفطر
<i>Teratosphaeria toledana</i>	الفطر
<i>Teratosphaeria velox</i>	الفطر
<i>Teratosphaeria verrucosa</i>	الفطر
<i>Teratosphaeria viscida</i>	الفطر

صنف الجنس الكيسي 1912 وأنواعه التي تقارب 112 نوع
بضمنها النوع الأصلي [*Teratosphaeria fibrillosa* Syd. & P. Syd., 1912](#)، ضمن المراتب
التصنيفية التالية في القبيلة الكيسية ومملكة الفطريات وفق المصنف : Mycobank

Genus: *Teratosphaeria*, Family: *Teratosphaeriaceae*, Order:
Mycosphaerellales, Subclass: *Dothideomycetidae*, Class:
Dothideomycetes, Subphylum: *Pezizomycotina*, Phylum:
Ascomycota, Subkingdom: *Dikarya*, Kingdom: *Fungi*

عرف الجنس الكيسي 1912 بالأسماء المرادفة *Teratosphaeria* Syd. & P. Syd., 1912
الالتالية (Synonyms) :

Colletogloeopsis Crous & M.J. Wingf., 1997 & **Kirramyces** J. Walker, B. Sutton
& Pascoe, 1992

ضم الجنس الكيسي 1912 ما يقارب 112 نوع وفقاً للمصنف
Teratosphaeria Syd. & P. Syd., 1912 وبضمنها النوعين المسببين لتقرح سiquan أشجار اليوكاليبيتوس
Mycobank وكما يلي: *Teratosphaeria zuluensis* و *Teratosphaeria gauchensis*

Teratosphaeria a-b

Teratosphaeria acidotherma; *Teratosphaeria africana*; *Teratosphaeria agapanthi*; *Teratosphaeria alboconidia*; *Teratosphaeria alcornii*; *Teratosphaeria*

alistairii; *Teratosphaeria altensteinii*; *Teratosphaeria angophorae*; *Teratosphaeria associata*; *Teratosphaeria aurantia*; *Teratosphaeria australiensis*; *Teratosphaeria bellula*; *Teratosphaeria biformis*; *Teratosphaeria blakelyi*; *Teratosphaeria brunneotingens*;...

Teratosphaeria c-d

Teratosphaeria calophylla; *Teratosphaeria calophyllae*; *Teratosphaeria capensis*; *Teratosphaeria combreti*; *Teratosphaeria complicata*; *Teratosphaeria concentrica*; *Teratosphaeria consideriana*; *Teratosphaeria coolabuniensis*; *Teratosphaeria corymbiae*; *Teratosphaeria corymbiicola*; *Teratosphaeria crispata*; *Teratosphaeria cryptica*; *Teratosphaeria delegatensis*; *Teratosphaeria dendritica*; *Teratosphaeria destructans*; *Teratosphaeria dimorpha*; *Teratosphaeria dispersa*; *Teratosphaeria dunnii*;..

Teratosphaeria e-k

Teratosphaeria encephalarti; *Teratosphaeria epicoccoides*; *Teratosphaeria eucalypti*; *Teratosphaeria excentrica*; *Teratosphaeria fibrillosa*; *Teratosphaeria fimbriata*; *Teratosphaeria flexuosa*; *Teratosphaeria foliensis*; *Teratosphaeria gamsii*; *Teratosphaeria gauchensis*; *Teratosphaeria gracilis*; *Teratosphaeria henryi*; *Teratosphaeria hortaea*; *Teratosphaeria jonkershoekensis*; *Teratosphaeria juvenalis*; *Teratosphaeria karinae*; *Teratosphaeria keanei*; *Teratosphaeria knoxdavesii*; *Teratosphaeria knoxdaviesii*;..

Teratosphaeria l-o

Teratosphaeria lilianiae; *Teratosphaeria macowanii*; *Teratosphaeria maculiformis*; *Teratosphaeria majorizuluensis*; *Teratosphaeria marasasii*; *Teratosphaeria mareebensis*; *Teratosphaeria maxii*; *Teratosphaeria mexicana*; *Teratosphaeria micromaculata*; *Teratosphaeria microspora*; *Teratosphaeria microsporum*; *Teratosphaeria miniata*; *Teratosphaeria molleriana*; *Teratosphaeria multiseptata*; *Teratosphaeria novaehollandiae*; *Teratosphaeria nubilosa*; *Teratosphaeria obscuris*; *Teratosphaeria ohnowa*; *Teratosphaeria ohnowia*; *Teratosphaeria ovata*;...

Teratosphaeria p-q

Teratosphaeria parkiiaffinis; *Teratosphaeria parva*; *Teratosphaeria perpendicularis*; *Teratosphaeria persoonii*; *Teratosphaeria pluritubularis*; *Teratosphaeria praelongispora*; *Teratosphaeria profusa*; *Teratosphaeria proteae-arboreae*; *Teratosphaeria pseudaficana*; *Teratosphaeria pseudoafricana*; *Teratosphaeria pseudocryptica*; *Teratosphaeria pseudoeucalypti*; *Teratosphaeria pseudonubilosa*; *Teratosphaeria pseudonubilosa*; *Teratosphaeria pseudosuberosa*; *Teratosphaeria quasicercospora*;...

Teratosphaeria r-z

Teratosphaeria readeriellophora; Teratosphaeria rubida; Teratosphaeria rubidae; Teratosphaeria secundaria; Teratosphaeria sieberi; Teratosphaeria stellenboschiana; Teratosphaeria stramenticola; Teratosphaeria suberosa; Teratosphaeria suttonii; Teratosphaeria syncarpiae; Teratosphaeria terminaliae; Teratosphaeria tinara; Teratosphaeria tinarooa; Teratosphaeria tiwiana; Teratosphaeria toledana; Teratosphaeria veloci; Teratosphaeria velox; Teratosphaeria verrucosa; Teratosphaeria viscida; Teratosphaeria viscidus; Teratosphaeria wingfieldii; Teratosphaeria xenocryptica; Teratosphaeria zuluensis.


ذكر الجنس الحالي **Teratosphaeria** ضمن العائلة الكيسية **Teratosphaeriaceae** Crous & U. التي ضمت ما يقارب 50 جنس كيسي وفق المصنف Mycobank وكما يلي: Braun, 2007

Acidiella; Acrodontium; Anabahusakala; Apenidiella; Araucasphaeria; Austroafricana; Austrostigmidium; Batcheloromyces; Caatingomyces; Catenulostroma; Colletogloeo psis; Eupenidiella; Euteratosphaeria; Fodinomyces; Haniomyces; Hortaea; Hyweljones iaLawreya; Magnuscella; Muriphila; Myrtapenidiella; Neocatenulostroma; Neohortae a; Neophaeothecoidea; Neotrimmatostroma; Nothostrasseria; Oleoguttula; Palmeirom yces; Parapenidiella; Parateratosphaeria; Penidiellomycetes; Petrophila; Pseudoteratosp haeria; Queenslandipenidiella; Ramopenidiella; Readeriella; Simplicidiella; Stenella; S uberoteratosphaeria; Teratoramularia; **Teratosphaeria**; Teratosphaericola; Teratosph aeriopsis; Walkaminomyces; Xenoconiothyrium; Xenopenidiella; Xenophacidiella; X enoteratosphaeria.

أختير الجنس الكيسي **Teratosphaeria** Syd. & P. Syd., 1912 كجنس أصلي للعائلة.




Teratosphaeria pseudoeucalypti



أعراض مرضية متسببة عن أنواع من الجنس الكيسي *Teratosphaeria*

https://www.google.com/search?q=image+of+Teratosphaeria+leaf+spot+on+eucalyptus&tbo=isch&ved=2ahUKEwjs0fmxzbv1AhVzm2oFHWfnBfcQ2-cCegQIABA&oq=image+of+Teratosphaeria+leaf+spot+on+eucalyptus&gs_lcp=CgNpbWcQDFAAWABgAGgAcAB4AIABAigBAJIBAJgBAKoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=M9vmYazsHfO2qtsP586XuA8&rlz=1C1CHBF_enUS982US982#imgrc=5y-xq9yMWEbTTM

Eucalyptus-LS86 تقع تيراتوسفيريكولا Teratosphaericola Leaf Spot



اعراض تقع أوراق أشجار اليوكلاليتوس وتركيب الفطر المسبب *Teratosphaericola pseudoafricana* وكما يلي: A : أحد بقع الأوراق ، B-D : أكياس وأبوااغ كيسية ، E : أبواغ كيسية نابته . مقياس الرسم 10 ميكروميترا

يسbib الفطر الكيسى *Teratosphaericola pseudoafricana* اعراض تقع اوراق اشجار اليوكلاليتوس و خاصة تلك الأشجار التابعة للنوع *Eucalyptus globulus* ، حيث عزل الفطر من شجرة نامية في أحد مناطق زامبيا . توصف البقع بأنها مابين الشكل الغير منتظم وشبه دائري و تراوح أقطارها ما بين 2 و 7 مليمتر بلونبني متوسط، محاطه بحافة رقيقة ذات أنسجة مرتفعة عن السطح. ينتج الفطر أبواغ كيسية ، شفافه، متداخلة في الكيسى ، بلونبني شاحب، مستقيمة أو منحنية قليلا، ناعمة الجدران، وقد تكون اطرافها العاليا ذات جدران خشنة ، لها حاجز واحد مع تخصر عند الحاجز وأبعادها 3-2.5 X 10-9 ميكروميترا في المختبر (على الوسط الغذائي). تتكون الاكياس البوغية داخلا تجاويف او غرف في الحشو الكيسية ولذلك يطلق على تلك التراكيب بـ Pseudotheocia وتكون الأكياس ذات جدارين (Bituncate) . عرف الفطر *Teratosphaericola pseudoafricana* سابقا بالاسم المرادف *Teratosphaeria pseudoafricana* (Crous & T.A. Cout.) Crous & U. : (Synonym) Braun, 2007.

صنف الفطر المسبب *Teratosphaericola pseudoafricana* (Crous & T.A. Cout.) Quaedvl. & Crous, 2014 ضمن المراتب التصنيفية التالية في القبيلة الكيسية ومملكة الفطريات وفق المصنف وكما يلي: Mycobank

Pathogen: *Teratosphaericola pseudoafricana* (Crous & T.A. Cout.) Quaedvl. &

Crous, 2014 ,Genus: *Teratosphaericola* Quaedvl. & Crous, 2014,Family:

Teratosphaeriaceae,Order: Mycosphaerellales,Subclass:

Dothideomycetidae,Class: Dothideomycetes,Subphylum:

Pezizomycotina,Phylum: Ascomycota,Subkingdom: Dikarya,Kingdom: Fungi


اعتبر الفطر المسبب لأحد أنواع تقع أوراق أشجار اليوكاليبتوس *Teratosphaericola* *pseudoafricana* (Crous & T.A. Cout.) Quaedvl. & Crous, 2014 النوع الأصلي للجنس *Teratosphaericola* الذي ضمن نوعا آخرا وهو *Teratosphaericola leucadendri* Quaedvl. & Crous, 2014

ذكر الجنس الحالي *Teratosphaeriaceae* Crous & ضمن العائلة الكيسية *Teratosphaericola* التي ضمت ما يقارب 50 جنس كيسي وفق المصنف Mycobank وكما يلي: U. Braun, 2007


Acidiella; Acrodontium; Anabahusakala; Apenidiella; Araucasphaeria; Austroafricana ; Austrostigmidium; Batcheloromyces; Caatingomyces; Catenulostroma; Colletogloeo psis; Eupenidiella; Euteratosphaeria; Fodinomyces; Haniomyces; Hortaea; Hyweljones iaLawreya; Magnuscella; Muriphila; Myrtapenidiella; Neocatenulostroma; Neohortae a; Neophaeothecoidea; Neotrimmatostroma; Nothostrasseria; Oleoguttula; Palmeirom yces; Parapenidiella; Parateratosphaeria; Penidiellomyces; Petrophila; Pseudoteratosphaeria; Queenslandipenidiella; Ramopenidiella; Readeriella; Simplicidiella; Stenella ; Suberoteratosphaeria; Teratoramularia; Teratosphaeria; **Teratosphaericola**; Teratosphaeriopsis; Walkaminomyces; Xenoconiothyrium; Xenopenidiella; Xenophacidiella; Xenoteratosphaeria.

أختير الجنس الكيسي **Teratosphaeria** Syd. & P. Syd., 1912 كجنس أصلي للعائلة.

تبقع ثارينيلا Eucalyptus -FS87



أعراض تبقع الأوراق وترکیب الفطر الكیسی المسبب *Thrinula eucalypti* وكما يلي: A-E: أعراض مرضية ، F,J. : مقاطع عمودية خلال الأسکوماتا وهي من نوع *Hysterorthecia* ، G,H. : أکیاس بوغیة ، I: الأجسام الثمرية (*Hysterothecia*) كما تبدو عند النسیج المصاب، K: أبواغ کیسیة ، L: مقطع خلال الجسم البکنیدی حيث تتكون الأبواغ الكونیدية ذات الشکل الأبری . مقیاس الرسم 10 میکرومیتر.



اعراض مرضيه على أوراق أشجار اليوكلاليتوس متباعدة عن أنواع من الجنس الكيسي *Thyrinula* مع تراكيب تلك الأنواع وكما يلي، A-C: اعراض وتراتيب الفطر *Thyrinula dunnii*، A : تقع الأوراق مع تراكيب الأجسام الثمرية على نسيج العائل، B: تراكيب الأجسام الثمرية *Hysterothecia* كما تبدو من الأعلى، C: أكياس بوغية وبداخلها أبواغ كيسية، D-G: اعراض وتراتيب الفطر *Thyrinula eucalypti* ، D: اعراض التقع وتراتيب الأجسام الثمرية ، E: تراكيب *Spermatogonium* ، H-J: اعراض مرضية وتراتيب الفطر *Thyrinula eucalyptina* ، H: شكل البقعة وفيها تراكيب الأجسام الثمرية (Ascocarp) ، I: أكياس ، J: سبيرماشيا خارجة من تركيب *Thyrinula Spermagonium* ، K-M: اعراض وتراتيب الفطر *Thyrinula eucalyptina* ، N-Q: اعراض وتراتيب الفطر *Thyrinula eucalyptina* . مقاييس الرسم D: 400 ميكروميتير، A,H,K,N: 200 ميكروميتير، G: 80 ميكروميتير، والبقية 10 ميكروميتير.

تسبّب الانواع الخمس التالية من الجنس الكيسي *Thyrinula* Petr. & Syd., 1924 وهي :

Thyrinula dunnii; Thyrinula eucalypti; Thyrinula eucalyptina; Thyrinula parasitica; Thyrinula uruguayensis.

اعراض تقع أوراق أشجار اليوكلاليتوس نامية في مناطق مختلفة من أستراليا وفي كل من جنوب أفريقيا وأوروغواي في أمريكا الجنوبية. تكون فطريات الجنس الكيسي *Thyrinula* أجسام ثمرية من نوع *Hysterothecia* حيث تكون متطاولة على شكل حرف ٢ تنتفتح من خلال شق طولي لتبدو الأكياس الحاملة للأبواغ الكيسية. يحوي الكيس البوغي على جدارين (Bituncate Ascii) . تكون الفطريات المذكورة أبواغها اللاجنسي داخل نوعين من التراكيب إما سبورودوكيا أو أجسام بكتينية. تنتج الأبواغ الكونينية على شكل سلاسل ، بلونبني متوسط ، ذات جدران سميكه ، غير مقسمه أو ذات حواجز عديدة. تكون فطريات هذا الجنس تراكيب لاجنسية يطلق عليها *Spermagonia* يتكون فيها ما يشبه الأبواغ تعرف بالسبيرماشيا ، خيطية الشكل، شفافة ، غير مقسمة ، لاتبت على الوسط الغذائي.

بق الفطر *Thyrinula dunnii*: سمي نوع الفطر على إسم نوع شجرة اليوكلاليتوس التي عزل من أوراقها *Eucalyptus dunnii* نامية في New South Wales الأسترالية. تترواح اقطار الأجسام الثمرية (Hysterothecia) ما بين 300 و 400 ميكروميتير ، بينما تترواح أبعاد الأكياس 23-28 X 8-11 والأبواغ الكيسية ما بين 9 و 12 X 3.5-5 ميكروميتير .

بق الفطر *Thyrinula eucalypti* (Cooke & Massee) H.J. Swart, 1988 : تميزت بقع الفطر المذكور باللون البني وعدم إمتداد الأنسجة المصابة عميقا (فقط على السطح العلوي للورقة) ، دائرة الشكل يتواجد فيها التراكيب الجنسيه (Hysterothecia) واللاجنسيه الأجسام البكتينية التي تكون مماثلة لتراتيب *Spermatogonium* . تترواح أبعاد الأجسام الثمرية الجنسيه 400-300 X 100 ، بينما تكون أبعاد الأكياس ما بين 18 و 28 X 8-9 ميكروميتير والأبواغ الكيسية 10-8 X 4-3 ميكروميتير. عزل الفطر المذكور من أوراق يوكالاليتوس ساقطة في أحد مناطق مقاطعة فيكتوريا الأسترالية وعلى أوراق شجرة يوكالاليتوس تابعة لنوع *Eucalyptus cloeziana*

بُق الفطر 1924 : عرف الفطر سابقاً بالإسم المرادف *Thyrinula eucalyptina* Petr. & Syd., 1924 و *Aulographum eucalypti* و *Lembosiopsis eucalyptina* Petr. & Syd., 1924 و *Lembosiopsis australiensis* و *Aulographina eucalypti* اليوكاليبيتوس ، بأنها دائرية الشكل، بنية اللون، لا تمتد إلى السطح السفلي للورقة، يتكون فيها تراكيب الطور الجنسية *Hysterothecia* التي تكون على شكل حرف Y والأجسام البكتينية التي تمثل الطور اللاجنسي وهي تراكيب مماثلة لتراكيب *Spermatiospores* التي تتكون فيها ما يشبه *Spermagonia* خيطية الشكل . يطلق على البقع المكونة ببقع الهدف (Target Spot) أو بقع فيلينية (Corky Spot) ، فهي خشنة الملمس ، قد تصل أقطارها 6 ملليمتر، ذات أنسجة متاخرة مرتفعة عن السطح. تتواجد مناطق متاخرة أيضاً على حوامل الأوراق وعلى الأغصان الصغيرة وكذلك على الساقان. تتراوح أبعاد الأجسام التمرية مابين 300 و 400 X 400-180 ميكروميتير ، والأكياس البوغية X40-33 14-11 والأبوااغ الكيسية من 12-13 X 5-4 ميكروميتير. عزل الفطر من أوراق شجرة يوكاليبيتوس نامية مناطق عديدة من أستراليا.

بُق الفطر : *Thyrinula parasitica* (Crous) Crous، عزل الفطر من أوراق شجرة يوكاليبيتوس نامية في أحد مناطق Western Cape في جنوب أفريقيا كما تم الحصول على بوغ كيسى واحد في أحد مناطق كولومبيا . تتراوح أبعاد الخلايا المولدة للأبوااغ الكونيدية 6-4 X 13-4 ميكروميتير ، وتوصف أبوااغه الكونيدية بأنها جافة تتواجد على شكل سلاسل متفرعة ولكل بوغ حواجز قد يصل عددها إلى 13 حاجز وتتراوح أبعاد الأبوااغ الكونيدية مابين 8 و 30 X 7-5 7 ميكروميتير.

بُق الفطر : *Thyrinula uruguayensis* Crous: عرف الفطر بالإسم المرادف *Alysidiella eucalypti* (Crous & M.J. Wingf.) Cheew. & Crous, 2012 . سمي نوع الفطر نسبة لإسم دولة أوغواي حيث عزل من أوراق أحد أشجار اليوكاليبيتوس. تتراوح أبعاد التراكيب اللاجنسبة كما يلي: الحوامل الكونيدية 10-15 X 5-7 ميكروميتير ، وهناك 1-2 حاجز ، أما أبعاد الخلايا المولدة للأبوااغ الكونيدية فهي تتراوح مابين 5 و 7 X 5-6 ميكروميتير . توصف أبوااغ الكونيدية بأنها شبه إسطوانية الشكل قد تصل فيها الحواجز إلى 6 حاجز ، وأبعادها 10-10 X 35-7 ميكروميتير

صنفت الفطريات الخمسة المسببة لبقع لأوراق أشجار اليوكاليبيتوس ضمن المراتب التصنيفية التالية في القبيلة الكيسية ومملكة الفطريات وفق المصنف :Mycobank

Pathogens: *Thyrinula dunnii*; *Thyrinula eucalypti*; *Thyrinula eucalyptina*; *Thyrinula parasitica*; *Thyrinula uruguayensis*, Genus: *Thyrinula* Petr. & Syd., 1924, Family:

Asterinaceae, Order: Asterinales, Class: Dothideomycetes, Subphylum: Pezizomycotina, Phylum: Ascomycota, Subkingdom: Dikarya, Kingdom: Fungi.


اعتبر الفطر 1924 النوع الأصلي للجنس *Thyrinula*.

ذكر الجنس الكيسى *Thyrinula* ضمن العائلة الكيسية Asterinaceae Hansf., 1946 ما يقارب 95 جنس كيسى وفق المصنف :Mycobank

Acarella; Allothyrium; Anariste; Aphanopeltis; Asterina; Asterinotheca; Asterodothis; Asterolibertia; Asterostomella; Asterostromina; Aulographella; Aulographina; Balansi

na; Batistinula; Bheemamyces; Blastacervulus; Brahmamyces; Bramhamyces; Calothyriolum; Cirrosia; Cirsoiella; Dimerosporium; Discopycnothyrium; Doguetia; Dothiclypeolum; Dothidasteris; Dothidasteromella; Echidnodella; Echidnodes; Englera; Englerulaster; Eupelte; Halbania; Halbanina; Heraldoa; Hyphaster; Hysterostoma; Ishwaramyces; Ishwaromyces; Isipinga; Lembopodia; Lembosia; Lembosidium; Lembosiellina; Le mbosiodothis; Lembosiopsis; Leveillella; Macowaniella; Mahanteshamomyces; Maha nteshamycetes; Mahanteshomyces; Maurodochella; Maurodonthina; Meliolaster; Melioli nopsis; Micrographa; Micrographomycetes; Morenoella; Morenoina; Morqueria; Myxasterina; Neostomella; Oothecium; Opeasterina; Paraopeba; Parasterina; Parasterinella; Parasterinopsis; Patouillardina; Peresiopsis; Petrakina; Pirozynskia; Placoasterella; Placo asterina; Placosoma; Polythyrium; Prillieuxina; Shivomyces; Steyaertia; Symphaster; Thallochaete; **Thyrinula**; Thyriopsis; Trichamelia; Trichasterina; Trichosia; Triposporium; Uleothyrium; Viegasia; Vishnumyces; Wardina; Yamamotoa.

Tracylla Leaf Spot. تقع تراسيلا Eucalyptus -LS88



أعراض تقع أوراق أشجار اليوكلاليتوس مع تراكيب الفطر المسبب *Tracylla aristata* وكما يلي: A: تبوغ الفطر على وسط البطاطا-دكستروز-آكر(PDA) ، B: أعراض التقع ، C,D: الخلايا المولدة للأبواغ ، E,F: الخلايا المولده للأبواغ وفي أطراها أبواغ كونيدية ، G: أبواغ كونيدية. مقياس الرسم 10 ميكرومتر.

from Hernández-Restrepo et al. 2016).

وُجِدَ بُقُّ الفُطُر Tracylla aristata (Cooke) Tassi, 1904 على أوراق ميّة وتحديداً عند طرف الورقة الميّة، لذاً أُعتبر الفطر المسبب من المرضّات الثانويّة على أوراق اليوكلاليتوس ، فقد يصنف ضمن الفطريّات المتّرمّمة أو المرضّات الضعيفّة على أوراق اليوكلاليتوس. يكون الفطر أبواغه اللاجنسيّة داخل تراكيب سوداء اللون أطلق عليها pycnothyria. فهي مغطاة بما يشبه الدرع. تتجمّع الأبواغ الكونيدية على شكل كتلة لزجة وللبوغ أبعاد ما بين 3-2 X 13-17 ميكرومتر ، لها قواعد مسطحة ولها زوائد في أطراها العليا بطول يتراوح ما بين 6.5 و 14 ميكرومتر. عزل الفطر من أوراق شجرة يوكالاليتوس في أحد مناطق فيكتوريَا الأسترالية، وكذلك على أوراق شجرة يوكالاليتوس تابعة لنوع *Eucalyptus regnans*

بُقُّ الفُطُر. 2018: وُجِدَ التراكيب اللاجنسيّة التي تتكون فيها أبواغ

الكونيدية (Pycnothyria) على ورقَة يوكالاليتوس ساقطة (Leaf litter) ، تابعة لنوع *Eucalyptus*

urophylla ناميّة في منطقة Cali الكولومبيّة . تكون الأبواغ الكونيدية بشكل مفرد ، شفافة اللون، غير

مقسمة، ناعمة الجدران، طرفها العلوي محدب بينما طرفها السفلي مسطح، بأبعاد 19-17 X 3-2.5 ميكرومتر.



تراكيب **Pycnothyria**

صنف الفطريين *Tracylla eucalypti* و *Tracylla aristata* ضمن المراتب التصنيفية التالية في القبيلة الكيسية وفق المصنف :Mycobank

Pathogens: *Tracylla aristata*&*Tracylla eucalypti* ,**Genus:** **Tracylla** (Sacc.) Tassi, 1904, **Family:** Tracyllaceae,**Order:** Tracyllales,**Class:** Sordariomycetes,**Subphylum:** Pezizomycotina,**Phylum:** Ascomycota

ضم الجنس الكيسي *Tracylla* (Sacc.) Tassi, 1904 الأنواع الأربع التالية وبضمنها النوع الأصلي *Tracylla spartinae* (Peck) Tassi, 1904 وكما يلي: *Tracylla andrasovzkyi*; *Tracylla aristata*; *Tracylla eucalypti*; *Tracylla spartinae*


عرف الجنس الكيسي 1904 بالاسم المرادف (Synonym) *Tracylla* (Sacc.) Tassi, 1904 التالي:

Mitrorhizopeltis Bat. & Cavalc., 1964

كما ذكر الجنس **Tracylla** ضمن العائلة **الكيسية** *Tracyllaceae* Crous, 2018 التي ضمت جنسين فقط *Neotracylla* الحالي والجنس الآخر .

https://www.google.com/search?q=image+of+pycnothyrium&rlz=1C1CHBF_en_US982US982&sxsrf=AOaemvLgd6-zijGL-jhLsAwEuC7q4EaF6w:1642718910662&tbo=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=47wRpBWoEkr0-M%252C8vYhrssuapJz5M%252C %253BW-EjrOKPP2-krM%252C5CJ-Ubc705L_2M%252C %253Bpj8KAb-YGQsLrM%252C-y5N7NFFxsmgTM%252C %253BczFoWCFBIgb0M%252Cj20CmUcopBNvzM%252C %253BaDKQCj6LsQV2tM%252C5CJ-

Uwebraunia Leaf Spot. تقع أويبراؤنيا Eucalyptus- SP89



أعراض تقع أوراق أشجار اليوكلابتوس وتركيب الفطر الكيسي *Uwebraunia dekkeri* وكما يلي: A,B: أعراض مرضية، C: صورة مقربة لأحد البقع مع تواجد كثيف للأجسام الثمرية من نوع *Pseudothecia* ، D,E: أكياس بوغية ،

F: أحد الأكياس وخلايا (أبوااغ السبيرماشيا) ، G: بوغ كيسى نابت، H: مستعمرة الفطر على وسط بطاطا دكستروز-آخر (PDA) ، I: مستعمرة فطرية نتيجة لإطلاق أبوااغ كونيدية على الوسط Synthetic Nutrient Agar (SNA) ، J ، Synthetic Nutrient Agar (SNA) ، K-N ، Malt Extract Agar (MEA) : الأبوااغ الكونيدية الرئيسية ، كما إنبات مثالى لأبوااغ كونيدية على الوسط (MEA) ، كما يلاحظ أبوااغ كونيدية ثانوية صغيرة الحجم وبيضاوية الشكل . مقاييس الرسم 10 ميكروميتير.

يسbib أربعة أنواع من الجنس الكيسى Uwebraunia Crous & M.J. Wingf., 1996 أعراض تبع الأوراق في أشجار اليووكاليبتوس النامية في أستراليا وإسبانيا وجنوب أفريقيا . تكون الفطريات الأربع التالية:

***Uwebraunia australiensis* (Crous & Summerell) Crous, 2012.**

***Uwebraunia commune* (Crous & Mansilla) Crous, 2012.**

***Uwebraunia dekkeri* (de Hoog & Hijwegen) Crous, 2012.**

***Uwebraunia juvenis* Crous & M.J. Wingf., 1996.**

أبوااغها الكيسية ضمن أكياس متواجدة في غرف أو فجوات داخل الحشوة الكيسية (Ascomata) . تتوارد الأبوااغ الكيسية ضمن أكياس تحوي على جدارين (Bitunicate Asci) .

بق الفطر *Uwebraunia australiensis*: تتراوح أبعاد الأبوااغ الكونيدية ما بين 23 و 25 X 5-4 ميكروميتير، تتكون بشكل إنفرادي ، بلون زيتوني إلىبني شاحب، ناعمة الجدران، بها حاجز واحد . عزل الفطر من أوراق شجرة يوكاليبتوس Tابعة النوع *Eucalyptus platyphylla* في أحد مناطق كوينس لاند الأسترالية.

بق الفطر 2012 : *Uwebraunia commune* (Crous & Mansilla) Crous, 2012

المرادف *Mycosphaerella communis* Crous & Mansilla, 2004. توصف بقع الفطر المذكور بأنها شبه دائيرية، بلونبني وسط، محاطه بحافة مرتفعة عن السطح ، تتراوح قطراتها ما بين 2 و 4 مليمتر. تتراوح أبعاد الأبوااغ الكيسية 4.5-4 X 13-15 في المختبر. تنتج الأبوااغ الكونيدية في أطراف الحوامل الكونيدية وأبعادها 5-4 X 30-20 ميكروميتير. عزل الفطر من أوراق شجرة يوكاليبتوس Tابعة النوع *Eucalyptus globulus* نامية في عدة مناطق من إسبانيا .

بق الفطر . *Uwebraunia dekkeri* (de Hoog & Hijwegen) Crous, 2012.

المرادفة التالية (Synonyms :

; *Mycosphaerella lateralis* Crous & M.J. Wingf., Mycologia 88: 454. 1996
Uwebraunia lateralis Crous & M.J. Wingf., 1996& *Mycosphaerella shimabarensis* H.C. Evans & P.F. Cannon, 2009.

توصف بقع الأوراق بأنها شبه دائيرية، تتراوح قطراتها ما بين 3 و 12 مليمتر - بألوانبني يميل للرمادي، محاطة بانسجة مرتفعة بلونبني كمنوسط على السطح العلوي بينما تكون الجهة السفلية بألوان داكنة . يكون الفطر أبوااغ كيسية شفافة، متداخلة داخل الكيس ، ذات جدران رقيقة ، في كل بوغ حاجز واحد بدون تخصر عند الحاجز. عزل الفطر من أوراق شجرة يوكاليبتوس Tابعة للهجين *Eucalyptus grandis × Eucalyptus saligna* نامية في المحافظة الشمالية لجنوب أفريقيا .

بع الفطر. *Uwebraunia juvenis* Crous & M.J. Wingf., 1996. **عزل الفطر من شجرة يوكاليبتوس تابعة لنوع** *Eucalyptus nitens*. توصف الأبوااغ الكونيدية بأنها تنتج بشمل إنفرادي، وتكون طرفية لها حاجز واحد وطرف علوي مدور ، بينما الطرف السفلي مسطح ، وتتراوح أبعادها ما بين 26 و 5.5-4.5 X 30 ميكرومتر . عزل الفطر من أوراق شجرة يوكاليبتوس تابعة لنوع *Eucalyptus nitens* نامية في أحد مناطق محافظة Kwazulu-Natal في جنوب أفريقيا. صنفت الفطريات الأربع التالية :

Uwebraunia australiensis; Uwebraunia commune; Uwebraunia dekkeri;

Uwebraunia juvenis

ضمن المراتب التصنيفية التالية في القبيلة الكيسية وفق المصنف :Mycobank

Pathogens: *Uwebraunia australiensis; Uwebraunia commune; Uwebraunia dekkeri; Uwebraunia juvenis*, **Genus:** *Uwebraunia* Crous & M.J. Wingf., 1996, **Family:** Dissoconiaceae, **Order:** Capnodiales, **Subclass:** Dothideomycetidae, **Class:** Dothideomycetes, **Subphylum:** Pezizomycotina, **Phylum:** Ascomycota

ومن الجدير بالذكر بأن مكونات الجنس الكيسى *Uwebraunia* Crous & M.J. Wingf., 1996 إقتصرت على الأنواع الثمانية التالية وبضمونها النوع الأصلي *Uwebraunia juvenis* Crous & M.J. 1996 وأنواع الأربعة المسبيه لأحد أنواع تقع الأوراق في أشجار اليوكاليبتوس وكما يلى:

Uwebraunia australiensis; Uwebraunia commune; Uwebraunia communis; Uwebraunia dekkeri; Uwebraunia ellipsoidea; Uwebraunia juvenis; Uwebraunia lateralis; Uwebraunia musae.

ذكر الجنس الكيسى ***Uwebraunia*** ضمن العائلة الكيسية **Dissoconiaceae** Crous & de Hoog, 2009 التي ضمت الأجناس الخمسة التالية وفق المصنف : Mycobank Dissoconium; Globoramichloridium; Pseudoveronaea; Ramichloridium; ***Uwebrauni***

a

Foliar pathogens of eucalypts:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166061619300090>

Virosphaerella leaf spot . تقع فيروسفيرا لا . Eucalyptus-LS90



أعراض تقع الأوراق المتسبيه عن أحد أنواع الجنس الكيسي *Virosphaerella* مع تراكيب فطرية ، A-C
أعراض تقع الفطر *Virosphaerella irregularis* ومقاطع عمودية في الجسم الثري ، D-F : أكياس ، G-J: أبواغ كيسية، L, أبواغ كيسية نابته. مقياس الرسم B,C = 100 ميكرومتر، البقية : 10 ميكرومتر.
يسbib نوع من الجنس الكيسي ***Virosphaerella* Videira & Crous, 2017** أعراض تقع أوراق أشجار اليوكلاليتوس وكما يلي:

بقع الفطر 2017 :*Virosphaerella irregularis* (Cheewangkoon et al.) Videira & Crous, 2017

عرف الفطر المذكور بالإسم المرادف (*Paramycosphaerella irregularis*) (Synonym) . توصف البقع بأنها شبه دائريه إلى بيضوية الشكل، بلونبني شاحب، ولها مراكز بلون رمادي، تتراوح أقطارها مابين 5 و 12 مليمتر محاطة بطبقة رقيقة بلونبني. تتراوح أبعاد الأبواغ الكيسية 9-11 X 2.5-3 ميكرومتر. عزل الفطر من أوراق شجرة يوكالاليتوس نامية في منطقة Udonthani التايلندية .

بقع الفطر :*Virosphaerella pseudomarksii* (Cheewangkoon et al.) Videira & Crous

الفطر من أوراق شجرة يوكالاليتوس نامية في منطقتي Mae Tang و Chiang Mai التايلندية. عرف الفطر *Paramycosphaerella pseudomarksii* (Cheewangkoon et al.) بالاسم المرادف

Guatimosim *et al.*, 2016. تترواح أبعاد الأبواغ الكيسية 3-17 ميكرومتر، شفافة، تتدخل داخل الكيس ذات نهايات مدورة مع إتساع في الوسط ، أبواغ مستقيمة أو منحنية قليلا. صنف الفطريين المسببين لأحد أعراض تقع أوراق أشجار اليوكالبتوس *Virosphaerella* *irregularis*&*Virosphaerella pseudomarksii* ضمن المراتب التصنيفية التالية في القبيلة الكيسية وفق المصنف : Mycobank

Pathogens: *Virosphaerella irregularis*&*Virosphaerella pseudomarksii*, Genus:

Virosphaerella Videira & Crous, 2017, Family: Mycosphaerellaceae, Order: Mycosphaerellales, Subclass: Dothideomycetidae, Class: Dothideomycetidae, Class: Dothideomycetes, Subphylum: Pezizomycotina, Phylum: Ascomycota

اعتبر الفطر ***Virosphaerella pseudomarksii*** (Cheew., K.D. Hyde & Crous) Videira & Crous, 2017 النوع الأصلي للجنس الحالي.

ذكر الجنس الكيسية ***Virosphaerella*** ضمن العائلة **Mycosphaerellaceae** Lindau, 1897 التي ضمت ما يقارب 225 جنس كيسي وفق المصنف ومما يلي: Mycobank

A-C

Acervuloseptoria; Achorodothis; Acrocladium; Acrodesmis; Acrotheca; Allantophomoides; Amycosphaerella; Ancylospora; Anematidium; Anguillosporella; Annellosympodiella; Apseudocercosporella; Ascospora; Asperisporium; Australosphaerella; Berteromyces; Biharia; Brunneosphaerella; Brunswickiella; Camptomeriphila; Caryophylloseptoria; Catenolaria; Catenulocercospora; Cercocladospora; Cercoideuterospora; Cercoramularia; Cercoseptoria; Cercosphaerella; Cercospora; Cercosporella; Cercosporidiium; Cercosporina; Cercosporiopsis; Cercostigmina; Chuppomyces; Cibiessia; Cladocillium; Clarohilum; Clypeispora; Clypeosphaerella; Collapsimycopappus; Collarispora; Colletogloeum; Coremiopassalora; Cyclodothis; Cymadothea;..

D-K

Davidiella; Davisoniella; Deightoniella; Deightonomycetes; Devonomyces; Dictyocephala; Dictyosporina; Didymaria; Didymellina; Diplochora; Diplochorella; Discella; Distocercospora; Distocercosporaster; Distomycovellosiella; Dothiostroma; Dothistroma Elletevera; Epicoleosporium; Epicymatia; Eriocercospora; Eriocercosporella; Eriocerosporella; Euryachora; Exutisphaerella; Filaspora; Filiella; Fulvia; Fusicladiella; Fusoidiella; Gillotia; Gomphinaria; Graminopassalora; Haplodothis; Helicobolus; Helicomina; Hippopotamyces; Hyalocercosporidium; Hyalodictys; Hyalodothis; Hyalozasmidium; Hypomycopsis; Isariopsella; Isariopsis; Jaczewskiella; Juncomyces; Kirramyces;

L-N

Laocoön; Lecanosticta; Lecanostictopsis; Lizoniella; Madagascaramyces; Marcosia; Melanodothis; Melanopsammopsis; Microcyclus; Micronectriella; Micronematomycete

s; *Miuraea*; *Mucomycosphaerella*; *Mycodiella*; *Mycosphaerella*; *Mycosphaerelloides* *Mycovellosiella*; *Neoceratosperma*; *Neocercospora*; *Neocercosporidium*; *Neodeightoniella*; *Neokirramyces*; *Neomycosphaerella*; *Neopenidiella*; *Neophloeospora*; *Neopseudocercospora*; *Neopseudocercosporella*; *Neoramichloridium*; *Neoseptoria*; *Nothopassalora*; *Nothopericoniella*; *Nothophaeocryptopus*; *Nothoseptoria*; *Nothotrimmatostroma*;

O-Q

Oligostroma; *Ophiocarpella*; *Ophiocladium*; *Oreophylla*; *Ovospshaerella*; *Ovularia*; *Pachyramichloridium*; *Pallidocercospora*; *Pantospora*; *Paracercospora*; *Paracercosporidium*; *Paramycosphaerella*; *Paramycovellosiella*; *Parapallidocercospora*; *Passalora*; *Pazschkeella*; *Pedrocrousiella*; *Periconiella*; *Phacellium*; *Phaeoisariopsis*; *Phaeophleospora*; *Phaeoramularia*; *Phaeothecoidea*; *Pharcidia*; *Pharcidiopsis*; *Phloeochora*; *Phloeoospora*; *Placocrea*; *Pleopassalora*; *Pleuropassalora*; *Pluripassalora*; *Plurivorusphaerella*; *Polyphalioseptoria*; *Polythrincium*; *Protostegia*; *Pruniphilomyces*; *Pseudocercospora*; *Pseudocercosporella*; *Pseudocercosporidium*; *Pseudopericoniella*; *Pseudophaeophleospora*; *Pseudophaeoramularia*; *Pseudopuccinia*; *Pseudosphaerella*; *Pseudostigmidium*; *Pseudovularia*; *Pseudozasmidium*; *Quasiphloeospora*;..

R-Z

Ragnhildiana; *Ramichloridium*; *Ramosphaerella*; *Ramularia*; *Ramulariopsis*; *Ramulariphaerella*; *Ramulispora*; *Rhabdospora*; *Rhachisphaerella*; *Rhopaloconidium*; *Rosisphaerella*; *Ruptoseptoria*; *Scirrhiachora*; *Scolecostigmina*; *Semipseudocercospora*; *Septaria*; *Septocylindrium*; *Septoria*; *Septorisphaerella*; *Septosphaerella*; *Sirosporium*; *Sonderhenia*; *Spermophyllosticta*; *Sphaerella*; *Sphaerellothecium*; *Sphaerialea*; *Sphaerulina*; *Spilosphaeria*; *Stenellopsis*; *Stigmidium*; *Stigmina*; *Stromatoseptoria*; *Sultanimyces*; *Tandonella*; *Tapeinosporium*; *Trochophora*; *Uwemyces*; *Vellosiella*; *Verrucispora*; *Verrucisporota*; *Virgasporium*; ***Virosphaerella***; *Walkeromyces*; *Xenomycosphaerella*; *Xenopassalora*; *Xenoramularia*; *Xenosonderhenia*; *Xenosonderhenioides*; *Zasmidium*; *Zymoseptoria*.

عرفت العائلة الكيسية 1897 ***Mycosphaerellaceae*** Lindau, 1897 بالاسم المرادف التالي:

Sphaerellaceae Nitschke, 1869

Foliar pathogens of eucalypts:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166061619300090>

Walkaminomyces Leaf Spot. Eucalyptus-LS91

عزل الفطر الكيسي *Walkaminomyces medusae* (Carnegie & G.S. Pegg) Crous & Carnegie, 2019 من أوراق شجرة يوكالبتوس تابعة للنوع *Eucalyptus alba* نامية في منطقة Queensland و Walkamin داخل أستراليا، ولذلك سمي نوع الفطر على إسم المنطقة التي عزل من أحد أشجار اليوكلبيتوس النامية فيها. توصف بقع الفطر الحالي بأنها غير منتضمة ، صغيرة قد تصل إلى 5 مليمتر وقد تزداد لتشكل ما يشبه أعراض اللحمة بحافات غير منتضمة. يكون الفطر أبواغه الكيسية داخل أكياس تتواجد في تجاويف أو غرف يطلق عليها Pseudothecia مغمورة في نسيج العائل ، تفجر لتتبين على سطح العائل ، لتبدو سوداء اللون ، كروية الشكل. تتواجد الأبواغ الكيسية ضمن أكياس لها جدارين (Bitunicate Asc) ، شبه جالسة، أشكالها شبه هراوي، مستقيمه، يتواجد داخلها ثمانية أبواغ كيسية شفافة، بها حاجز واحد . تتراوح أبعاد الأبواغ الكيسية 10-12 X 4-3 ميكرومتر. يمثل الفطر الطور الجنسي للفطر الممرض..
Walkaminomyces medusae (Carnegie & G.S. Pegg) Crous & Carnegie, 2019 ضمـن المراتب التصـنـيفـية التـالـيـة في القـبـيلـة الكـيـسـيـة ومـلـكـة الفـطـريـات وفق المـصـنـف : Mycobank

Pathogen: *Walkaminomyces medusae* (Carnegie & G.S. Pegg) Crous & Carnegie,

2019, Genus: *Walkaminomyces* Crous & Carnegie, 2019, **Family:**

Teratosphaeriaceae, **Order:** Mycosphaerellales, **Subclass:**

Dothideomycetidae, **Class:** Dothideomycetes, **Subphylum:**

Pezizomycotina, **Phylum:** Ascomycota, **Subkingdom:** Dikarya, **Kingdom:** Fungi

ذكر الجنس الحالي Walkaminomyces ضمن العائلة الكيسية *Teratosphaeriaceae* Crous & U. Braun, 2007 وكما يلي:

Acidiella; Acodontium; Anabahusakala; Apenidiella; Araucasphaeria; Austroafricana; Austrostigmidium; Batcheloromyces; Caatingomyces; Catenulostroma; Colletogloeo psis; Eupenidiella; Euteratosphaeria; Fodinomyces; Haniomyces; Hortaea; Hyweljones iaLawreya; Magnuscella; Muriphila; Myrtapenidiella; Neocatenulostroma; Neohortae a; Neophaeothecoidea; Neotrimmatostroma; Nothostrasseria; Oleoguttula; Palmeirom yces; Parapenidiella; Parateratosphaeria; Penidiellomyces; Petrophila; Pseudoteratosp haeria; Queenslandipenidiella; Ramopenidiella; Readeriella; Simplicidiella; Stenella ; Suberoteratosphaeria; Teratoramularia; Teratosphaeria; Teratosphaericola; Teratosph aeriopsis; **Walkaminomyces**; Xenoconiothyrium; Xenopenidiella; Xenophacidiella; Xenoteratosphaeria.

أختير الجنس الكيسي **Teratosphaeria** Syd. & P. Syd., 1912 كجنس أصلي للعائلة.

Eucalyptus-LS92

تبقع زينومايكوسفيريلا Xenomycosphaerella Leaf Spot



أعراض التبقع المسبب عن الفطر الكيسي *Xenomycosphaerella elongata* وتراكيب الفطر المسبب وكما يلي: B-D : أكياس وأبوااغ وأبوااغ كيسية، E-G: أبواغ كيسية في حالة إنبات. مقياس الرسم 10 ميكروميتير.

Crous et al. 2007c

يسكب الفطر الكيسي *Xenomycosphaerella elongata* (Crous & M.J. Wingf.) Quaedvlieg & Crous, 2014 أعراض تبقع أوراق أشجار اليوكلاليتوس ، حيث تتشكل على الأوراق بقع بلونبني متوسط تبدأ من حافات الورقة ومن ثم تمتد للداخل، غير منضمه أو شبه دائرية، محاطة بأنسجة سميكة، ولونبني داكن وقد تتراوح قطرات البقع ما بين 3 و 13 مليمتر. اعتبر الفطر المذكور من الممراضات الثانوية على أوراق اليوكلاليتوس. يكون الفطر أبواغه الكيسية داخل أكياس متواجدة داخل فجوات في السنطوما يطلق عليها Pseudothecia، بلونبني داكن، كروية الشكل. يحوي الكيس على جدارين Bitunicate Ascii) ، مستقيمة، أو منحنية قليلا. عزل الفطر الممرض من أوراق شجرة

يوکالیپتوس تابعة للهجين *Eucalyptus camaldulensis* × *Eucalyptus urophylla* نامية في أحد مناطق فينزويلا.

صنف الفطر المسبب لأحد أنواع تقع أوراق أشجار اليوکالیپتوس *Xenomycosphaerella elongata* ضمن المراتب التصنيفية التالية في القبيلة الكيسية ومملكة النطريات وفق المصنف (Crous & M.J. Wingf.) Quaedvl. & Crous, 2014 : Mycobank

Pathogen: *Xenomycosphaerella elongata* (Crous & M.J. Wingf.) Quaedvl. & Crous, 2014 , **Genus:** *Xenomycosphaerella* Quaedvl. & Crous, 2014, **Family:**

Mycosphaerellaceae, **Order:** Mycosphaerellales, **Subclass:**

Dothideomycetidae, **Class:** Dothideomycetes, **Subphylum:**

Pezizomycotina, **Phylum:** Ascomycota, **Subkingdom:** Dikarya, **Kingdom:** Fungi

ضم الجنس الكيسى 2014 لأنواع الثلاثة التالية *Xenomycosphaerella* Quaedvl. & Crous, 2014

Xenomycosphaerella diplazii; *Xenomycosphaerella elongata*; *Xenomycosphaerella yunnanensis*

ذكر الجنس الكيسى **Xenomycosphaerella** ضمن العائلة **Mycosphaerellaceae** Lindau, 1897 التي ضمت ما يقارب 225 جنس كيسى وفق المصنف Mycobank وكما يلي:

A-C

Acervuloseptoria; Achorodothis; Acrocladium; Acrodesmis; Acrotheca; Allantophomoides; Amycosphaerella; Ancylospora; Anematidium; Anguillosporella; Annellosympodiella; Apseudocercosporella; Ascospora; AsperisporiumAustralosphaerella; Berteromyces; Biharia; Brunneosphaerella; Brunswickiella; Camptomeriphila; CaryophylloseptoriaCatenolaria; Catenulocercospora; Cercocladospora; Cercodeuterospora; Cercoramularia; Cercoseptoria; Cercosphaerella; Cercospora; Cercosporella; Cercosporidium; Cercosporina; Cercosporiopsis; Cercostigmina; Chuppomyces; Cibiessia; Cladocillium; Clarohilum; Clypeispora; Clypeosphaerella; Collapsimycopappus; CollarisporaCollotogloeum; Coremiopassalora; Cyclodothis; Cymadothea;..

D-K

Davidiella; Davisoniella; Deightoniella; Deightonomycetes; Devonomycetes; Dictyocephala; Dictyosporina; Didymaria; Didymellina; Diplochora; Diplochorella; Discella; Distocercospora; Distocercosporaster; Distomycovellosiella; Dothiostroma; Dothistroma Elletevera; Epicoleosporium; Epicymatia; Eriocercospora; Eriocercosporella; Eriocercosporella; Euryachora; Exutisphaerella; Filaspora; Filiella; Fulvia; Fusicladiella; Fusoidiella; Gillotia; Gomphinaria; Graminopassalora; Haplodothis; Helicobolus; Helicomina; Hippopotamyces; Hyalocercosporidium; Hyalodictys; Hyalodothis; Hyalozasmidium; Hypomycopsis; Isariopsella; Isariopsis; Jaczewskiella; Juncomyces; Kirramyces;

L-N

Laocoön; Lecanosticta; Lecanostictopsis; Lizoniella; Madagascaramyces; Marcosia; Melanodothis; Melanopsammopsis; Microcyclus; Micronectriella; Micronematomyces; Miuraea; Mucomycosphaerella; Mycodiella; Mycosphaerella; Mycosphaerelloides Mycovellosiella; Neoceratosperma; Neocercospora; Neocercosporidium; Neodeightoniella; Neokirramyces; Neomycosphaerella; Neopenidiella; Neophloeospora; Neopseudocercospora; Neopseudocercosporella; Neoramichloridium; Neoseptoria; Nothopassalora; Nothopericoniella; Nothophaeocryptopus; Nothoseptoria; Nothotrimmatostroma;

O-Q

Oligostroma; Ophiocarpella; Ophiocladium; Oreophylla; Ovospshaerella; Ovularia; Pachyramichloridium; Pallidocercospora; Pantospora; Paracercospora; Paracercosporidium; Paramycosphaerella; Paramycovellosiella; Parapallidocercospora; Passalora; Pazschkeella; Pedrocrousiella; Periconiella; Phacellium; Phaeoisariopsis; Phaeophleospora; Phaeoramularia; Phaeothecoidea; Pharcidia; Pharcidiopsis; Phloeochora; Phloeospora; Placocrea; Pleopassalora; Pleuropassalora; Pluripassalora; Plurivorusphaerella; Polypialoseptoria; Polythrincium; Protostegia; Pruniphilomyces; Pseudocercospora; Pseudocercosporella; Pseudocercosporidium; Pseudopericoniella; Pseudophaeophleospora; Pseudophaeoramularia; Pseudopuccinia; Pseudosphaerella; Pseudostigmidium; Pseudovularia; Pseudozasmidium; Quasiphloeospora; ..

R-Z

Ragnhildiana; Ramichloridium; Ramosphaerella; Ramularia; Ramulariopsis; Ramulari sphaerella; Ramulispora; Rhabdospora; Rhachisphaerella; Rhopaloconidium; Rosiph aerella; Ruptoseptoria; Scirrhachora; Scolecostigmina; Semipseudocercospora; Septaria; Septocylindrium; Septoria; Septorisphaerella; Septosphaerella; Sirosporium; Sonderhenia; Spermophyllosticta; Sphaerella; Sphaerellothecium; Sphaerialea; Sphaerulina Spilosphaeria; Stenellopsis; Stigmidium; Stigmina; Stromatoseptoria; Sultanomyces; Tandonella; Tapeinosporium; Trochophora; Uwemyces; Vellosiella; Verrucispora; Verrucisporota; Virgasporium; Virosphaerella; Walkeromyces; **Xenomycosphaerella**; Xenopassalora; Xenoramularia; Xenosonderhenia; Xenosonderhenioides; Zasmidium; Zygomoseptoria.

عرفت العائلة الكيسية 1897 **Mycosphaerellaceae** Lindau, 1897 بالاسم المرادف التالي (Synonym) **Sphaerellaceae** Nitschke, 1869

Xenosonderhenia Leaf Spot . تقع زينوسوندريهينيا . Eucalyptus-LS93



اعراض تقع الوراق وتركيب الفطر المسبب *Xenosonderhenia eucalypti* وكما يلي: C-E: أكياس وبداخلها أبواغ كيسية، F: أبواغ كيسية نابته. مقياس الرسم + 10 ميكرومتر.

عزل الفطر *Xenosonderhenia eucalypti* من أوراق شجرة يوكالبتوس تابعة للنوع *Eucalyptus urophylla* نامية في أحد غابات الدجولة الأفريقية موزامبيق . توصف أعراض التقع بأنها بلون بني داكن، تتراوح قطراتها ما بين 10 و 20 ملليمتر تحيطها أنسجة بلون بني غامق. عزل الفطر أيضاً من بقع متسبة عن الفطر الكيسي *Zasmidium eucalyptigenum* وهو أحد مسببات تقع أوراق اليوكالبتوس. تتراوح أبعاد الأبواغ الكيسية 4-18 X 20-3 ميكرومتر، شفافة، ناعمة الجدران، تكون عريضة عند الخلية الطرفية العليا. تتكون الأبواغ الكونيدية داخل أجسام بكونيدية لها فتحات مركزية، كروية الشكل. تختلف الحوامل الكونيدية بالخلايا المولدة للأبواغ الكونيدية التي تتواجد داخل الأجسام بكونيدية.

صنف الفطر المسبب لأحد أنواع تقع أوراق اليوكالبتوس *Xenosonderhenia syzygii* Crous, 2012 ضمن المراتب التصنيفية التالية في القبيلة الكيسية وفق المصنف :Mycobank

Pathogen: *Xenosonderhenia syzygii* Crous, 2012, **Genus:** *Xenosonderhenia* Crous, 2012, **Family:** Mycosphaerellaceae, **Order:** Mycosphaerellales, **Subclass:**

Dothideomycetidae, Class: Dothideomycetes, Subphylum:
Pezizomycotina, Phylum: Ascomycota, Subkingdom: Dikarya, Kingdom: Fungi

ضم الجنس الكيسي 2012 الأنواع الثلاثة التالية وفق المصنف
Xenosonderhenia coussapoae; *Xenosonderhenia eucalypti*; *Xenosonderhenia syzygii* : Mycobank

ذكر الجنس الكيسي **Xenosonderhenia** ضمن العائلة الكيسية **Mycosphaerellaceae** Lindau, 1897 التي ضمت ما يقارب 225 جنس كيسي وفق المصنف : Mycobank وكما يلي:

A-C

Acervuloseptoria; Achorodothis; Acrocladium; Acrodesmis; Acrotheca; Allantophomoides; Amycosphaerella; Ancylospora; Anematidium; Anguillosporella; Annelosympodiella; Apseudocercosporella; Ascospora; Asperisporium Australosphaerella; Berteromyces; Biharia; Brunneosphaerella; Brunswickiella; Camptomeriphila; Caryophylloseptoria Catenolaria; Catenulocercospora; Cercocladospora; Cercodeuterospora; Cercoramularia; Cercoseptoria; Cercosphaerella; Cercospora; Cercosporella; Cercosporidiium; Cercosporina; Cercosporiopsis; Cercostigmina; Chuppomyces; Cibiessia; Cladocillium; Clarohilum; Clypeispora; Clypeosphaerella; Collapsimycopappus; Collarispora Colletogloeum; Coremiopassalora; Cyclodothis; Cymadothea;..

D-K

Davidiella; Davisoniella; Deightoniella; Deightonomycetes; Devonomycetes; Dictyocephala; Dictyosporina; Didymaria; Didymellina; Diplochora; Diplochorella; Discella; Distocercospora; Distocercosporaster; Distomycovellosiella; Dothiostroma; Dothistroma Elletevera; Epicoleosporium; Epicymatia; Eriocercospora; Eriocercosporella; Eriocerosporella; Euryachora; Exutisphaerella; Filaspora; Filiella; Fulvia; Fusicladiella; Fusoidiella; Gillotia; Gomphinaria; Graminopassalora; Haplodothis; Helicobolus; Helicomina; Hippopotamycetes; Hyalocercosporidium; Hyalodictys; Hyalodothis; Hyalozasmidium; Hypomycopsis; Isariopsella; Isariopsis; Jaczewskiella; Juncomyces; Kirramyces;

L-N

Laocoön; Lecanosticta; Lecanostictopsis; Lizoniella; Madagascaramyces; Marcosia; Melanodothis; Melanopsammopsis; Microcyclus; Micronectriella; Micronematomyces; Miuraea; Mucomycosphaerella; Mycodiella; Mycosphaerella; Mycosphaerelloides Mycovellosiella; Neoceratosperma; Neocercospora; Neocercosporidium; Neodeightoniella; Neokirramyces; Neomycosphaerella; Neopenidiella; Neophloeospora; Neopseudocercosporella; Neoramichloridium; Neoseptoria; Nothopassalora; Nothopericoniella; Nothophaeocryptopus; Nothoseptoria; Nothotrimmatostroma;

O-Q

Oligostroma; Ophiocarpella; Ophiocladium; Oreophylla; Ovospshaerella; Ovularia; Pac

hyramichloridium; Pallidocercospora; Pantospora; Paracercospora; Paracercosporidium; Paramycosphaerella; Paramycovellosiella; Parapallidocercospora; Passalora; Pazschkeella; Pedrocrousiella; Periconiella; Phacellium; Phaeoisariopsis; Phaeophleospora; Phaeoramularia; Phaeothecoidea; Pharcidia; Pharcidiopsis; Phloeochora; Phloeospora; Placocrea; Pleopassalora; Pleuropassalora; Pluripassalora; Plurivorusphaerella; Polyp hialoseptoria; Polythrincium; Protostegia; Pruniphilomyces; Pseudocercospora; Pseudocercosporella; Pseudocercosporidium; Pseudopericoniella; Pseudophaeophleospora; Pseudophaeoramularia; Pseudopuccinia; Pseudosphaerella; Pseudostigmidium; Pseudovularia; Pseudozasmidium; Quasiphloeospora;..

R-Z

Ragnhildiana; Ramichloridium; Ramosphaerella; Ramularia; Ramulariopsis; Ramulari sphaerella; Ramulispora; Rhabdospora; Rhachisphaerella; Rhopaloconidium; Rosisphaerella; Ruptoseptoria; Scirrhachora; Scolecostigmina; Semipseudocercospora; Septaria; Septocylindrium; Septoria; Septorisphaerella; Septosphaerella; Sirosporium; Sond erhenia; Spermophyllosticta; Sphaerella; Sphaerellothecium; Sphaerialea; Sphaerulina Spilosphaeria; Stenellopsis; Stigmidium; Stigmina; Stromatoseptoria; Sultanomyces; Tandonella; Tapeinosporium; Trochophora; Uwemyces; Vellosiella; Verrucispora; Verr uciaporota; Virgasporium; Virosphaerella; Walkeromyces; Xenomycosphaerella; Xenopassalora; Xenoramularia; **Xenosonderhenia**; Xenosonderhenioides; Zasmidium; Zy moseptoria.

عرفت العائلة الكيسية 1897 **Mycosphaerellaceae** Lindau, 1897
بالإسم المرادف التالي **Sphaerellaceae** Nitschke, 1869

Eucalyptus-LS94

تبعد زينوسونديرهينيوديس Xenosonderhenioides Leaf Spot



مستعمرة الفطر الكيسي *Xenosonderhenioides indonesiana* و تراكيب الفطرو كما يلي: A: مستعمرة الفطر على وسط (OA) Oatmeal Agar (OA) ، B,C ، حوالن كونيدية وخلايا مولده للأبواخ الكونيدية ، D: خلايا مولده للأبواخ الكونيدية وأبواخ كونيدية، E: أبواخ كونيدية . مقياس الرسم 10 ميكرومتر.

عزل الفطر الكيسي *Xenosonderhenioides indonesiana* C. Nakash., Videira & Crous, 2017 من أوراق أحد أشجار اليوكلاليتوس نامية في أحد مناطق إندونيسيا. تتصف تراكيب الفطر وأولها الغزل الفطري (المايسيليوم) باللون البني وأحياناً يكون شفافاً ، ناعم الجدران، مقسم ومتفرع ، أما الحوامل الكونيدية فإن فيها حوامل صغيرة (Macro...) وحوامل كبيرة (Micro...) تتراوح ألوانها ما بين شبه شفاف إلى بني شاحب ، ناعمة الجدران وأحياناً خشنة الجدران. تتكون الأبواخ الكونيدية بشكل مفرد أو على شكل سلسلة وحيدة ، ألوانها شفافة، ناعمة الجدران، ذات نهاية عليا مدوره غير مقسمه وتتراوح أبعادها ما بين 15 و 50 X 6-5 ميكرومتر، ولها حواجز قد تصل أربعة . اعتبر الفطر من المرضات الثانوية على أوراق أشجار اليوكلاليتوس. ومن الجدير بالذكر بأن الفطر الممرض يمثل النوع الأصلي والوحيد للجنس الكيسي

Xenosonderhenioides Videira & Crous, 2017

صنف الفطر الكيسي المسبب لأحد أنواع تبع الأوراق في أشجار اليوكلاليتوس *Xenosonderhenioides indonesiana* C. Nakash., Videira & Crous, 2017 ضمن المراتب التصنيفية التالية في القبيلة الكيسية وكما يلي وفق المصنف Mycobank

Pathogen: *Xenosonderhenioides indonesiana* C. Nakash., Videira & Crous, 2017, **Genus:** *Xenosonderhenioides* Videira & Crous, 2017, **Family:** Mycosphaerellaceae, **Order:** Mycosphaerellales, **Subclass:** Dothideomycetidae, **Class:** Dothideomycetes, **Subphylum:** Pezizomycotina, **Phylum:** Ascomycota.

Zasmidium Leaf Spot. تقع زاسميديوم Eucalyptus. LS-95



أعراض أحد بقع أوراق أشجار اليوكلالبتوس مسببة عن أحد أنواع الجنس الكيسي مع تراكيب فطرية لنوعين من الجنس المذكور وكما يلي: A: أعراض التقع مسببة عن الفطر *Zasmidium* ، B-C ، D: أكياس الفطر المذكور، E: تراكيب الفطر الكيسي (*Ostiolar eucalyptorum*) ، F: أبواغ كيسية نابته، G-K: أبواغ كيسية، H: حوامل كونيدية حاملة أبواغ كونيدية، I: أبواغ كونيدية ، J: أبواغ كونيدية ، K: أبواغ كيسية نابته. مقاييس الرسم 10 ميكرومتر.

تسبب سبعة أنواع من الجنس الكيسي Zasmidium أعراض تقع الأوراق في أشجار اليوكلالبتوس وكما يلي:

بُق الفطر :*Zasmidium eucalypticola* U. Braun et al., 2017: عزل الفطر من أوراق

شجرة يوكاليبتوس نامية في عدة مناطق في البرازيل. يتواجد في الفطر نوعين من الحوامل الكونيدية (صغيرة وكبيرة) وتتراوح ألوانها مابين الزيتونى الشاحب المائل للبني أو الزيتونى المائل للبني ، مقسمه ، مستقيمه أو منحنية قليلا، بأبعاد 38-3.5-3 X 63-20-7.5 ميكرومتر. تتواجد الخلايا المولدة للأباغ الكونيدية في أطراف الحوامل الكونيدية. تتراوح أبعاد الأباغ الكونيدية 4-2.5 X 20-7.5 ميكرومتر، قد يحيى البوغ على حاجز واحد وتوارد بشكل إنفرادي.

بُق الفطر .*Zasmidium eucalyptigenum* Crous & M.J. Wingf., 2014 : عزل الفطر

من أوراق شجرة يوكاليبتوس تابعة للنوع *Eucalyptus urophylla* نامية في أحد مناطق الدولة الأفريقية موزامبيق . توصف بُق الأوراق بأنها بلون بني غامق، بأقطار مابين 10 و20 مليمتر ، تحيطها أنسجة بلون بني داكن. تتواجد تراكيب الفطر أيضا في البقع المتسيبة عن الفطر الكيسى *Xenosonderhenia eucalypti* . ينتج الفطر أباغ كونيدية بنية اللون، مستقيمة، أو منحنية مفردة أو في سلاسل متفرعه، شبه إسطوانية الشكل، قواعدها مستدقة أو مسطحة فيها حاجز قد يصل عددها 9 حاجز. وأبعادها 30 X 120-3 ميكرومتر .

بُق الفطر *Zasmidium eucalyptorum* (Crous & M.J. Wingf.) Quaedvlieg & Crous,

2014.

عزل الفطر من أوراق شجرة يوكاليبتوس تابعة للنوع *Eucalyptus urophylla* نامية في أحد مناطق أندنوسيا. تتراوح أقطار البقع مابين 2 و 20 مليمتر ، شبه دارية الشكل، بألوان بني متوسط، تحيطها أنسجة بنية مرتفعة عن السطح ولها حافات بلون إرجواني محمر. ينتج الفطر أباغ كيسية بأبعاد 14-15 X 4 ميكرومتر، في كل بوغ حاجز واحد ، ألوانها شفافة .

بُق الفطر *Zasmidium pseudoparkii* (Crous & M.J. Wingf.) Crous & U. Braun2010.

عزل الفطر من أوراق شجرة يوكاليبتوس نامية في أحد مناطق كولومبيا. تتراوح أقطار البقع مابين 3 و 7 مليمتر ، غير منتضمة بلون بني شاحبتحيطها أنسجة مرتفعة عن السطح. يكون الفطر أباغ كونيدية مفردة أو تكون على شكل سلاسل ، قد يحيى البوغ الكوني 1-5 حاجز وتتراوح أبعاد الأباغ 20-50 X 2.5-3 ميكرومتر.

بُق الفطر .*Zasmidium pseudovespa* (Carnegie) U. Braun et al., 2017: عزل الفطر

من أوراق شجرة يوكاليبتوس تابعة للنوع *Eucalyptus biturbinata* New Namiae في منطقة South Wales الأسترالية. تتراوح أقطار البقع مابين 3 و 7 مليمتر، بلون أصفر يميل للبني ، مع حافات رقيقة بلون بني محمر إلى إرجواني. تتراوح أبعاد الأباغ الكيسية 4-3 X 11.5-13.5 ميكرومتر.

بُق الفطر *Zasmidium xenoparkii* (Crous & M.J. Wingf.) Crous & U. Braun, 2010

عزل الفطر من أوراق يوكاليبتوس تابعة للنوع *Eucalyptus grandis* نامية في أحد مناطق أندنوسيا . تتراوح أقطار البقع من 2 إلى 10 مليمتر ، غير منتضمة أو شبه إسطوانية ، بلون بني شاحب، وحواف بلون إرجواني محمر. تتراوح أبعاد الأباغ الكونيدية 12-50 X 3-5 ميكرومتر، بلون بني متوسط ، وت تكون في سلاسل متفرعه، قد يتواجد في البوغ حاجزين أو تكون الأباغ عديمة الحاجز .

صنفت الفطريات المسبب لأحد أنواع تبعع أوراق اشجار اليوكاليبتوس ضمن المراتب التصنيفية التالية في القبيلة الكيسية وفق المصنف :Mycobank

Pathogens: *Zasmidium eucalypticola* *Zasmidium eucalyptigenum* *Zasmidium eucalyptorum* *Zasmidium pseudoparkii*; *Zasmidium pseudovespa*, **Genus:** *Zasmidium* Fr., 1849, **Family:** Mycosphaerellaceae, **Order:** Mycosphaerellales, **Subclass:** Dothideomycetidae, **Class:** Dothideomycetes, **Subphylum:** Pezizomycotina, **Phylum:** Ascomycota.

: (Synonyms) **Zasmidium** Fr., 1849 **عرف الجنس الكيسي** بالأسماء المرادفة التالية

Periconiella Sacc., 1885; **Stenellopsis** B. Huguenin, 1966; **Acrocladium** Petr., 1949; **Acrodesmis** Syd., 1926; **Biharia** Thirum. & Mishra, 1953; **Verrucispora** D.E. Shaw & Alcorn, 1967; **Verrucisporota** D.E. Shaw & Alcorn, 1993.

ضم الجنس الكيسي 1849 ما يقارب 250 نوع بضمنها الأنواع الخمسة التي تسبب تقع أوراق أشجار اليوكانيليتوس وكما يلي:

Zasmidium			a-b
<i>Zasmidium adeniae</i> ; <i>Zasmidium aeglicola</i>	<i>Zasmidium aerohyalinosporum</i> ; <i>Zasmidium agavicola</i> ; <i>Zasmidium alocasiae</i>	<i>Zasmidium alpiniae</i> ; <i>Zasmidium anamirtae</i> ; <i>Zasmidium angulare</i>	
<i>Zasmidium annonaceae</i> ; <i>Zasmidium anthuriicola</i> ; <i>Zasmidium aphanamixidis</i>	<i>Zasmidium aporusae</i> ; <i>Zasmidium araliae</i>	<i>Zasmidium arcuatum</i> ; <i>Zasmidium argyreiae</i> ; <i>Zasmidium asclepiadis</i>	
<i>Zasmidium aspiliae</i> ; <i>Zasmidium aucklandicum</i> ; <i>Zasmidium australiense</i>	<i>Zasmidium bischofiae-javanicae</i> ; <i>Zasmidium biverticillatum</i> ; <i>Zasmidium bougainvilleae</i> ; <i>Zasmidium brideliicola</i> ; <i>Zasmidium brownaeicola</i>	<i>Zasmidium brouneicola</i> ; <i>Zasmidium buteae</i>	

Zasmidium c-d

Zasmidium canavaliae; *Zasmidium canthii*; *Zasmidium capparacearum*; *Zasmidium capparicola*; *Zasmidium capparigenum*; *Zasmidium caryotae*; *Zasmidium caseariicola*; *Zasmidium cassiae*; *Zasmidium cassiae-fistulae*; *Zasmidium cassiae-grandis*; *Zasmidium cassiae-occidentalis*; *Zasmidium cassiae-torae*; *Zasmidium cassiicola*; *Zasmidium cassines*; *Zasmidium cedrelae*; *Zasmidium celastri*; *Zasmidium cellare*; *Zasmidium cercestidis*; *Zasmidium cercestidis-afzelii*; *Zasmidium ceropagiae*; *Zasmidium cerophilum*; *Zasmidium cestri*; *Zasmidium cinnamomi*; *Zasmidium citri*; *Zasmidium*

<i>citri-grisea</i> ;Zasmidium	<i>citri-griseum</i> ;Zasmidium	<i>clusiae</i> ;Zasmidium
<i>coffeaee</i> ;Zasmidium	<i>colocasiae</i> ;Zasmidium	<i>commune</i> ;Zasmidium
<i>corymbiae</i> ;Zasmidium	<i>crotalariicola</i> ;Zasmidium	<i>cubense</i> ;Zasmidium
<i>cuneaegenum</i> ;Zasmidium	<i>cuneigenum</i> Zasmidium	<i>cyatheaee</i> ;Zasmidium
<i>cynanchi</i> ;Zasmidium	<i>cyrtopodii</i> ;Zasmidium	<i>dalbergiae</i> ;Zasmidium
<i>dasypogonis</i> ;Zasmidium	<i>daviesiae</i> ;Zasmidium	<i>deightonianum</i> ;Zasmidium
<i>dianellae</i> ;Zasmidium	<i>dianthi</i> ;Zasmidium	<i>dichanthii</i> ;Zasmidium
<i>dicranopteridis</i> ;Zasmidium	<i>dioscoreicola</i> ;Zasmidium	<i>diospyri</i> ;Zasmidium
<i>diospyri-hispidae</i> ;Zasmidium	<i>diospyrigenum</i> ;Zasmidium	<i>dracaenae</i> ;Zasmidium
		<i>ducassei</i> ;....

Zasmidium e-g

<i>Zasmidium ehretigeum</i> ;Zasmidium	<i>ehretiigenum</i> ;Zasmidium	
<i>elaeocarpi</i> ;Zasmidium	<i>elaeodendri</i> ;Zasmidium	<i>embeliicola</i> Zasmidium
<i>emblicae</i> ;Zasmidium	<i>eriolobi</i> ;Zasmidium	<i>erythroxyl-campestris</i> ;Zasmidium
<i>erythroxyl-suberosi</i> ;Zasmidium		<i>erythroxylcola</i> ;Zasmidium
<i>erythroxylicum</i> ;Zasmidium	<i>eucalypti</i> ;Zasmidium	<i>eucalypticola</i> ;Zasmidium
<i>eucalyptigenum</i> ;Zasmidium	<i>eucalyptorum</i> ;Zasmidium	<i>eugeniicola</i> ;Zasmidium
<i>euphorbicola</i> ;Zasmidium	<i>euphorbiicola</i> ;Zasmidium	<i>extremorum</i> ;Zasmidium
<i>fabacearum</i> ;Zasmidium	<i>fabaceicola</i> ;Zasmidium	<i>ficinum</i> ;Zasmidium
<i>flacourtieae</i> ;Zasmidium	<i>fructicola</i> ;Zasmidium	<i>fructigenum</i> ;Zasmidium
<i>gahniae</i> ;Zasmidium	<i>gahniicola</i> ;Zasmidium	<i>garugae</i> ;Zasmidium
<i>americanae</i> ;Zasmidium	<i>glycosmidis</i> ;Zasmidium	<i>genipae-</i>
<i>gorakhpurens</i> ;Zasmidium	<i>gorakhpurensis</i> ;Zasmidium	<i>gongronematis</i> ;Zasmidium
<i>grewiae</i> ;Zasmidium	<i>guazumae</i> ;Zasmidium	<i>grevilleae</i> ;Zasmidium
	<i>gupoyu</i> ;Zasmidium	<i>gynurae</i> ;

Zasmidium h-m

<i>Zasmidium haematiticum</i> ;Zasmidium	<i>hakeae</i> ;Zasmidium	<i>hakeicola</i> ;Zasmidium
<i>heterophragmatis</i> ;Zasmidium	<i>himatanthi</i> ;Zasmidium	<i>hippocratiae</i> ;Zasmidium
<i>hirtellae</i> ;Zasmidium	<i>holophaeum</i> ;Zasmidium	<i>hymenocallidis</i> ;Zasmidium
<i>hyptiantherae</i> ;Zasmidium	<i>ichnocarpicola</i> ;Zasmidium	<i>indicum</i> ;Zasmidium
<i>indogangeticum</i> ;Zasmidium		<i>indonesianum</i> ;Zasmidium
<i>stoloniferae</i> ;Zasmidium	<i>iteae</i> ;Zasmidium	<i>ipomoeae-</i>
		<i>jasminicola</i> ;Zasmidium

<i>kansense</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>kydiae</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>lamiacearum</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>lantanae</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>leucothoës</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>liboense</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>liriopes</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>litseae</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>litseae-glutinosae</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>lonicericola</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>lygodii</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>lythri</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>macluricola</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>maesae</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>manihotis</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>marasasii</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>meynae-laxiflorae</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>micheliae</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>milletiae</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>mirzapurense</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>mitellae</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>murrayae</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>musae</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>musae-banksii</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>musicola</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>musigenum</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>mycovellosielloides</i> ; <i>Zasmidium</i>
		<i>myxum</i> ; ..

Zasmidium n-r

<i>Zasmidium nabiacense</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>naucleae</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>nocoxi</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>ocoteae</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>ocotei</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>oleae</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>oligoneuri</i> ; <i>Zasmidium</i>		<i>oliganthis</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>oxycocci</i> ; <i>Zasmidium</i>		<i>orchidacearum</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>parkii</i> ; <i>Zasmidium</i>		<i>oroxylicola</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>pavoniae</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>paulliniae</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>pavettae</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>persicae</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>pentatropidis</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>periandrae</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>plumeriae</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>pittospori</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>plectroniae</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>praelongum</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>podocarpi</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>polyalthiae</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>pseudoparkii</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>prosopidis</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>proteacearum</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>psychotriae</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>pseudotsugae</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>pseudovespa</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>pterocarpigenum</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>queenslandicum</i> ; <i>Zasmidium</i>	
<i>quitense</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>rhododendri</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>robinsonii</i> ; <i>Zasmidium</i>
		<i>rothmanniae</i> ; <i>Zasmidium</i>
		<i>rubiacearum</i> ; <i>Zasmidium</i>
		<i>rutacearum</i> ; ..

Zasmidium s-x

<i>Zasmidium salicis</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>sardoum</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>satpurense</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>scaevolicola</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>schefflerae</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>schini</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>schizandrae</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>schubertianum</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>scleriae</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>sclerolobii</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>scoriadeum</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>shoreae</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>shoreicola</i> ; <i>Zasmidium</i>		<i>simaroubacearum</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>sinuosogeniculatum</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>smilacicola</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>smilacis</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>smilacis-macrophyllae</i> ; <i>Zasmidium</i>		<i>smilacis-proliferae</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>solidaginis</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>sonapathariense</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>sonneratiae</i> ; <i>Zasmidium</i>
<i>stemodiicola</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>stephaniae</i> ; <i>Zasmidium</i>	<i>stipae</i> ; <i>Zasmidium</i>

<i>strelitziae; Zasmidium</i>	<i>subsanguineum; Zasmidium</i>	<i>suregadae; Zasmidium</i>
<i>syzygii; Zasmidium</i>	<i>telosmae; Zasmidium</i>	<i>tephrosiae; Zasmidium</i>
<i>thailandicum; Zasmidium</i>	<i>thaliae; Zasmidium</i>	<i>tiliacorae; Zasmidium</i>
<i>trijugae; Zasmidium</i>	<i>tsugae; Zasmidium</i>	<i>vangueriae; Zasmidium</i>
<i>velutinum; Zasmidium</i>	<i>vexans; Zasmidium</i>	<i>weberi; Zasmidium</i>
<i>wendlandiicola; Zasmidium</i>	<i>wikstroemiae; Zasmidium</i>	<i>xenoparkii; Zasmidium</i>
		<i>xeromphigenum.</i>

ذكر الجنس الكيسية ضمن العائلة **Zasmidium** التي ضمت ما يقارب 225 جنس كيسى وفق المصنف Mycospheerellaceae Lindau, 1897 وكما يلي: Mycobank

A-C

Acervuloseptoria; Achorodothis; Acrocladium; Acrodesmis; Acrotheca; Allantophomoides; Amycosphaerella; Ancylospora; Anematidium; Anguillosporella; Annellosympodiella; Apseudocercosporella; Ascospora; Asperisporium; Australosphaerella; Berteromyces; Biharia; Brunneosphaerella; Brunswickiella; Camptomeriphila; Caryophylloseptoria; Catenolaria; Catenulocercospora; Cercocladospora; Cercodeuterospora; Cercoramularia; Cercoseptoria; Cercosphaerella; Cercospora; Cercosporella; Cercosporidium; Cercosporina; Cercosporiopsis; Cercostigmina; Chuppomyces; Cibiessia; Cladocillium; Clarohilum; Clypeispora; Clypeosphaerella; Collapsimycopappus; Collarispora; Colletogloeum; Coremiopassalora; Cyclodothis; Cymadothea;..

D-K

Davidiella; Davisoniella; Deightoniella; Deightonomycetes; Devonomyces; Dictyocephala; Dictyosporina; Didymaria; Didymellina; Diplochora; Diplochorella; Discella; Distocercospora; Distocercosporaster; Distomycovellosiella; Dothiostroma; Dothistroma Elletevera; Epicoleosporium; Epicymatia; Eriocercospora; Eriocercosporella; Eriocercosporella; Euryachora; Exutisphaerella; Filaspora; Filiella; Fulvia; Fusciadiella; Fusoidiella; Gillotia; Gomphinaria; Graminopassalora; Haplodothis; Helicobolus; Helicomina; Hippopotamyces; Hyalocercosporidium; Hyalodictys; Hyalodothis; Hyalozasmidium; Hypomycopsis; Isariopsella; Isariopsis; Jaczewskiella; Juncomyces; Kirramyces;

L-N

Laocoön; Lecanosticta; Lecanostictopsis; Lizoniella; Madagascaramyces; Marcosia; Melanodothis; Melanopsammopsis; Microcyclus; Micronectriella; Micronematomyces; Miuraea; Mucomycosphaerella; Mycodiella; Mycosphaerella; Mycosphaerelloides Mycovellosiella; Neoceratosperma; Neocercospora; Neocercosporidium; Neodeightoniella; Neokirramyces; Neomycosphaerella; Neopenidiella; Neophloeospora; Neopseudocercosporella; Neoramichloridium; Neoseptoria; Nothopassalora; Nothopericoniella; Nothophaeocryptopus; Nothoseptoria; Nothotrimmatostroma;

O-Q

Oligostroma;Ophiocarpella;Ophiocladium;Oreophylla;Ovospshaerella;Ovularia;Pachyramichloridium;Pallidocercospora;Pantospora;Paracercospora;Paracercosporidium;Paramycosphaerella;Paramycovellosiella;Parapallidocercospora;Passalora;Pazshkeella;Pedrocrousiella;Periconiella;Phacellium;Phaeoisariopsis;Phaeophleospora;Phaeoramularia;Phaeothecoidea;Pharcidia;Pharcidiopsis;Phloeochora;Phloeospora;Placocrea;Pleopassalora;Pleuropassalora;Pluripassalora;Plurivorusphaerella;Polypialoseptoria;Polythrincium;Protostegia;Pruniphilomyces;Pseudocercospora;Pseudocercosporella;Pseudocercosporidium;Pseudopericoniella;Pseudophaeophleospora;Pseudophaeoramularia;Pseudopuccinia;Pseudosphaerella;Pseudostigmidium;Pseudovularia;Pseudozasmidium;Quasiphloeospora;..

R-Z

Ragnhildiana;Ramichloridium;Ramosphaerella;Ramularia;Ramulariopsis;Ramulari sphaerella;Ramulispora;Rabdospora;Rhachisphaerella;Rhopaloconidium;Rosisphaerella;Ruptoseptoria;Scirrhachora;Scolecostigmina;Semipseudocercospora;Septaria;Septocylindrium;Septoria;Septorisphaerella;Septosphaerella;Sirosporium;Sondherenia;Spermophyllosticta;Sphaerella;Sphaerellothecium;Sphaerialea;Sphaerulina Spilosphaeria;Stenellopsis;Stigmadium;Stigmina;Stromatoseptoria;Sultanomyces;Tandonella;Tapeinosporium;Trochophora;Uwemyces;Vellosiella;Verrucispora;Verrucisporota;Virgasporium;Virosphaerella;Walkeromyces;Xenomycosphaerella;Xenopassalora;Xenoramularia;Xenosonderhenia;Xenosonderhenioides;**Zasmidium**;Zymoseptoria.

عرفت العائلة الكيسية 1897 **Mycosphaerellaceae** Lindau, 1897
بالإسم المرافق التالي **Sphaerellaceae** Nitschke, 1869





أبواخ كونيدية وحوارمل كونيدية الفطر *Zasmidium fructicola*

https://www.google.com/search?q=Image+of+Zasmidium&rlz=1C1CHBF_en-US982US982&sxsrf=AOaemvKznSk97-EtuVIqcg8TByG7XU0szQ:1642922022763&tbo=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=KkcAkGq7plvnNM%252CVLN98t0Dy20-LM%252C%253B9Wdz9vKLBTM%252CpBa4ydPj0VsfZM%252C%253BDqOYbpiN_qLx4M%252CuxY7IP-r-RyHgM%252C%253BfvHvPCLVYpfQjM%252CW5riCyUSQ3De8M%252C%253B-&usg=AI4-

References

1. Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology, 5th edition, Pp901, Elsevier Academic Press.
2. Encyclopedia of Life (eOL) online published by Wiley-Blackwell.
3. MycoBank by International Mycological Association, On-Line database
4. The Dictionary of Fungi ,10th edition,2008. By P.M.Kirk, P.F. Cannon, D.W. Minter & J.A. Stapers.